




Preamble

With a civilization spanning 5000 years, today China is the second largest economy globally, with a population that is the largest in the world. It has an incredibly vibrant, and unique culture that is influenced by geography and ethnic diversity. The country has an impressive and extensive landscape that features grasslands, deserts, mountains, rivers and lakes. China's striking record in poverty alleviation is unparalleled in all of history. Today, it is spreading the fruits of its progress worldwide, as it opens up centuries of philosophy, tradition and prosperity to the world.

Pakistan's relationship with China is based on strong strategic, economic, political foundations and in addition to a deep people to people connection. Centuries ago, Pakistan was an important location on the ancient silk route, and today Pakistan's position remains pivotal in the New Silk Road, as an indispensable neighbor and friend to China. The two have enjoyed a mutually supportive friendship over the decades, with robust cooperation and camaraderie. Both countries have much to exchange with one another as the Sino-Pakistani friendship continues to grow.

To celebrate the spirit of this wonderful bond, with the help of the Chinese Embassy, the Pakistan-China Institute invited all Pakistanis to partake in an essay writing competition. The topic of the essay was, "To China, with Love". Pakistanis from every part of the country and all walks of life expressed both in Urdu and English, their feelings and sentiments towards China. The essays consisted of personal experiences, outlook and knowledge on China, with suggestions on how to further deepen people-to-people connections between the two countries. Winners were awarded both cash prizes and culturally immersive study tours to China.

Winning essays have been compiled in this booklet for your pleasurable reading. Initiatives like the Essay Competition will continue to deepen the existing love between the friendly neighbors, Pakistan and China.





WINNERS

1st-

English essay- Abeera Hassan

Urdu essay- Tehzeeb Hussain Bercha

2nd-

English essay- Hassan Ahmed, Momina Arif, Hassan Zaheer

Urdu essay- Abrar ur Rahman

3rd-

English essay- Azka Arshad, Muhammad Aizzan Malik,
Saba Saeed, Hashim Khan

Urdu essay- Faizan A. Malik, Iman Riaz

CONSOLATION PRIZES-

English essay- Saira Maroof, Warda Batool, Aksa Bilal,
Afsah Khalid, Ayesha Azib, Sabreena Shah, Saddam Hussain

Urdu essay- Haya Hareem, Farina Basheer, Kinza Nazir





1st Prize : English Essay

Dear China,

My mother told me the sky was ashen tonight so I should be expecting you. I could recognize you anywhere. You've come to teach me your ways, haven't you? I've been waiting.


I know what you have been through and I know what you gave up to be here. I have heard about the five thousand years of heroic history that you now proudly display on your stone temple walls, every bronze bell that tolls and sings the songs of your warriors with rings that echo in every bell tower of China. Your resilience resonates in the hollowed slant roof of the teahouse, where each flavor of steaming tea undulates your struggle, and I know someone is drinking it hoping they can just taste your cultural richness. I know I would.

Explain to me how walking on your sweet smelling earth, I feel bodies moving underneath the ground, as though the very Earth was the playground for Chinese alchemists trying to achieve immortality with gunpowder. I can see remainders of The Ming dynasty lingering in every oriental porcelain urn I've ever bought, dainty blue vines hand painted with expert craftsmanship. I reminisce when I think of your culture, which is just as diverse and vivid as mine, only you have preserved it through years of upkeep and unswerving effort, unlike me.

Dear China, I have suffered greatly at the hands of war and bloodshed, and now I am worn out. My history is laden with those who have tried to destroy me but I survived with obstinate resilience, and so have you. So, could you teach me bravery, integrity and honor that you inherited from the likes of Guan the brave? I've heard stories of the great Yang dynasty warriors who rode into battle and overcame adversity to save their families. I, too, have lost many brave men to the menace that is terrorism and my war is still not over. It has left me sad and distraught.

All the therapists in my country do not have enough couches to hold my melancholia. So, maybe you can teach me the importance of spiritual peace that you have mastered, trickling down the Hengduan Mountains, often searched for by misguided travelers like me who reach your doorsteps desperate for internal harmony. Your abbot's shelter their tired spirits, guide them to the path of enlightenment, nursed by the learned gurus skilled at spiritual cleansing. Oh China, I am tired tonight. I have fought wars many wouldn't imagine surviving.

So tell me, will you teach me the ethos of hard work through labor that you know so well? As though you forged freedom in the hands of tireless angels who, behind a serial number and a work station, under fluorescent lights between blocks of machines, footed Chinas first industrial revolution and built the country from scratch into the global force it is today. Let's sit down so you can tell me what it feels like to memorize trade routes, become an industrial powerhouse and take over the world with an economic reform to give rise to an unrelenting assiduous generation, working from the tender age of eighteen, molded into honorable men that uphold the core Chinese values of family, responsibility and loyalty.



Perhaps, you've come to teach me the importance of Chinese Confucian teachings as they stem from the bosom of the hunched abbess who taught you how to read your first letter but who is now stuck in perpetual wonderment behind her curtain of silence, smiling at how her country's great dynasties that gave birth to philosophers who developed complex spiritual and secular theologies were now being revered as the true saviors for mankind, thousand years later. For all you know, maybe the world will look at you and we might witness another revolution taking us back to our roots.

Will you teach me how to appreciate feminine beauty, delicate but fierce like your warrior women, sweet like cherry blossom infused water that flows in your rivers, under which often lies a network of hard working souls, with boundless enthusiasm for prosperity of a nation they believe in. Tonight, you can tell me how you built one of the greatest nations on the sweat-beaded backs of farmers that laid fertile fields and fed an agrarian China through an industrial revolution, who then become best friends with metropolitan cities, and later become the backbone of Chinas working class yet remained humble.

So maybe it is humility that you should teach me after all. The pillar of your empire, where the foreman works hand in hand with the labor. Tell me about how you embody respect in authoritarian Chinese mothers who led the nation's youth into unquestioned prosaic obedience, and then celebrated as their son's accomplishments brought back home well learned and successful men, who still came home, removed their shoes and bowed with reverence to their elders and ancestors.

Maybe now is the time for us to let go of our differences so I can learn from you. How to be more modest, more diligent and more deserving. There is so much you can teach me. I just hope my people are ready to learn.

With love,
Pakistan.

Abeera Hassan
abeera.hassan1@gmail.com

تا گیا پھر ایک صبر آزما جدوجہد کے بعد 1949ء میں ایک عظیم انقلاب کا سورج طلوع ہوا۔ اس انقلاب کے باعث جاگیر داری اور سرمایہ داری کا خاتمہ ہوا اور منصوبہ بند معیشت استوار ہوئی جس کے ذریعے اس پسماندہ ملک میں تیز ترین صنعتی ترقی ہوئی۔ مضبوط معاشی انفراسٹرکچر تعمیر ہوا اور ہنرمند محنت کش طبقہ پیدا ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ چینی قوم کی انتھک محنت کے سبب چین دنیا میں ایک معاشی سپر پاور کے طور پر ابھرا۔

باؤ! میرے خط سے کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھے تمہاری موت کا افسوس نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آج میری آنکھوں میں تمہارے لئے آنسو نہیں ہیں۔ میں نے اپنے ملک میں اتنی غریبی اور سماجی ناانصافی دیکھی ہے کہ جسے دیکھ کر میرے آنسو ختم ہو گئے ہیں مگر میں تمہاری موت پر نہایت افسردہ اور سوگوار ہوں اور میرے دل میں تمہارے قاتلوں کے خلاف غم اور غصہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج میں ایک نہایت عزیز دوست سے مخاطب ہوں ایک ایسے ملک کا شہری جو ہر کڑے اور آڑے وقت میں بھائیوں کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا حتیٰ کہ 1965 اور 1971ء کی پاک انڈیا جنگ میں میرے وطن عزیز کی بھرپور مدد کی۔ ہمیں ایک ایسی طاقت بننے میں مدد کر کے دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا موقع دیا یا جو کشمیر تنازعہ کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہوا اور جس نے 2013ء میں میرے ملک کو معاشی طور پر مستحکم اور غربت و بے روزگاری کے خاتمے کے لئے سی پیک جیسے پراجیکٹ کا آغاز کیا۔ میں ایک ایسی عظیم دوستی کے مقدس رشتے سے مربوط ملک کے ایک محنت کش کی اپنی زمین پر ناحق خون پر بھلائیے سکتی رہ سکتا ہوں

باؤ! تمہارے سامنے اپنے دل پر لگے زخموں کے قصوں کا پٹارہ کھول دیا ہے تو یہ بھی بتانا چلوں کہ تم نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لئے جان کا نذرانہ دے کر دوستی کا حق ادا کیا اور امر ہو گئے لیکن پیارے! آج تمہاری خاک و خون میں غلطی لاش کو دیکھ کر ایک عجیب غم کی کیفیت سے دوچار ہوں اور فکر فردا کی تک میرے دل کو مسلسل بے چین کر رہی ہے کہ کاش آنے والے دنوں میں کوئی ایسی صبح طلوع نہ ہو کہ جہاں تمہاری طرح گھر آئے مہمان کو لاش کی صورت میں اپنا ملک واپس جانا پڑے بلکہ ہمارے دونوں ملکوں میں امن و آشتی کا ایک ایسا سورج طلوع ہو کہ جہاں حضرت انسان کا وجود کسی دوسرے انسان کے لئے خوف و وحشت کا باعث نہ بنے بلکہ ہمارے ملک کا رخ کرنے والے ہر فرد کے لئے بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل امن و سلامتی کی ضامن ہو اور میری دلی خواہش ہے کہ مستقبل میں یہ دوستی مزید مضبوط ہو اور دونوں ملکوں کے لئے خوشحالی کی ایک نئی جہت کا آغاز ہو مگر اس کے لئے لازم ہے کہ دونوں ملکوں میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ کسی بھی قوم یا ملک سے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لئے ایک دوسرے کی تہذیب و ثقافت، ورثے اور زبان کو سمجھنا نہایت ضروری ہے لہذا اس ضمن میں تعلیمی اور ثقافتی وفدوں کے تبادلوں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگاتے ہوئے دونوں ملکوں کی مادری زبانوں کو فروغ دینے کے لئے چین کو پاکستانی جامعات میں کنفیوشس سینٹر ز اور پاکستان کو چینی جامعات میں اردو کے شعبوں کے ساتھ ساتھ پاکستان ریسرچ سینٹر کے مزید قیام کی ضرورت ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان اور چین کو تعلیمی شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہے کیونکہ نوجوان کسی بھی ملک کے مستقبل کا اثاثہ ہوتے ہیں سو چین اپنی جامعات میں پاکستانی طلباء کے سکالرشپ کو طے میں مزید اضافہ کر کے اور سی پیک پراجیکٹس کی تکمیل کے لئے پاکستانی غیر ہنرمند افراد کو ووکیشنل اور پروفیشنل ایجوکیشن کے ذریعے ہنرمند بنا کر بے روزگاری کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اسی طرح پاکستانی جامعات میں بھی چینی طلباء کے لئے تعلیم کے مواقع پیدا کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ پاکستان اور چین کی جامعات کی اسناد دونوں ملکوں میں قابل قبول ہونی چاہیے اور دونوں ملکوں کی جامعات میں پاکستان سٹیڈیز اور چائینہ سٹیڈیز کے نئے شعبے متعارف کرائیں جائیں تاکہ دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات قائم ہو سکیں۔

باؤ! ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام میں قربتیں بڑھائی جائیں کیونکہ جب دوستیاں بڑھتی ہیں تو اسی تناسب سے جغرافیائی اور ذہنی دوریاں کم ہو جاتی ہیں لہذا دونوں ملکوں کے شعراء وادباء، فنکاروں، سرمایہ کاروں، ماہرین تعلیم اور ماہرین زراعت کے مطالعاتی دورے کرائیں جائیں اور خصوصاً پاکستانی وفد کو چین کی لائبریریوں کا ضرور رخ کرایا جائے تاکہ دونوں ملکوں کی ثقافتوں کا روشن پہلو اجاگر ہو سکے جبکہ دونوں ملکوں کو معاشی، زرعی، صنعتی، تجارتی اور توانائی کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری و تکنیکی معاونت کے علاوہ سائنسی تحقیق، مضبوط انفراسٹرکچر اور دہشت گردی کے روک تھام میں باہمی تعاون خصوصاً پاکستان کو چینی مزدوروں اور انجینئروں کی جان و مال کے تحفظ کے لئے جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں تمہارے جیسا کوئی معمار وطن سے میلوں دور دہشتگردی کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح پاکستان کے کچھ علاقے بدھ مت کے آثار و نوادرات کے حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہیں جو چینی محققین اور ماہرین بدھ ازم کے لئے معاون ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف کے لوگوں میں بہتر تعلقات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ چین جرنلزم کی انڈسٹری میں زیادہ متحرک نہیں۔ چین کی معاشی سپر پاور بننے کے بعد ایک فعال نیوز ایجنسی اور ٹی وی چینل کی اشد ضرورت ہے جو پاکستان اور چین کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کا بھی موثر جواب دے سکے۔

نام قلمکار: تہذیب حسین، برچہ

پیشہ: شاعر / ادیب

1st Prize : Urdu Essay

فکر فردا (انجینئر لوگت ہوگت باؤ کے نام ایک خط)

تحریر: تہذیب حسین، برچہ

یہ خط میں نے نلگت چین کے انجینئر لوگت ہوگت باؤ، عمر 35 سال، باشندہ ہینگی صوبہ آن ہوئی کے نام لکھا ہے۔ واضح رہے کہ چین کے عوام نے ہر دور میں اپنی تہذیب و ثقافت کو سنوارنے اور نکھارنے کا عمل جاری رکھا اور اپنے پیش بہا تجربات سے ایک عالم کو بہرہ مند کیا۔ کاغذ، بارود اور قطب نما جیسی انقلاب آفریں ایجادات چین ہی کے ذریعے دنیا تک پہنچیں۔ دیوار چین چینی کاری گروں کی مہارت کا ایک شاندار نمونہ ہے جس نے صدیوں سے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے اور اب سی پیک پراجیکٹ میں معاونت کے لئے پاکستان کا رخ کرنے والے انجینئر لوگت ہوگت باؤ نے بلوچستان کے علاقے حب میں جان کا نذرانہ دے کر دستگیر دوں کو یہ پیغام دیا کہ چینی ایک بہادر، جفاکش اور وفادار قوم ہے جو پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دے گی

پاک چین دوستی کا عظیم رشتہ سدا بہار پُراعتاد اور قابلِ رشک ہے۔ 68 سال کے طویل عرصے پر محیط مثالی رفاقت نہ صرف محبت، خلوص اور مہر و وفا کا استعارہ ہے بلکہ اس دوستی کی سنہری تاریخ کئی مزدوروں اور محنت کشوں کی قابلِ قدر قربانیوں سے مملو ہے لیکن جب سے انجینئر باؤ کا باد صبا میں کھلے کسی پھول کی مانند ہنستے بستے چہرے پر مسکراہٹ سے مزین تصویر میری نظر سے گزری ہے لگتا ہے کہ دل پر منقش ہو گئی ہو اور جب بھی فرصت کے کسی حسیں لمحے میں خیالوں کی دنیا میں کھو جاتا ہوں تو گمان ہوتا ہے کہ باؤ تصویر سے باہر نکل کر پہلو میں آ بیٹھا ہو اور مجھ سے کئی سوالات کر رہا ہو کہ جن کے جوابات دینا دوستی کے رشتے کا متقاضی ہے۔

میں نے اس کے مرنے کی خبر کل شام ایک نیوز چینل کے توسط سے سنی تھی۔ میں اسے ہمسایہ ملک کے ایک جری سپوت کی عظیم قربانی قرار دے کر واقعے کو بھلا دینا چاہتا تھا لیکن ٹی وی سکرین پر باؤ کی تصویر کو دیکھ کر کرب کی ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوا۔ جوں ہی اس کے مرنے کی خبر سنی، میں نے اسے خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تو میں جانتا تھا مرنے کے خط نہیں پڑھ سکتے لیکن اتنی امید ضرور ہے کہ اگر کوئی دوسرا چینی مزدور اس خط کو پڑھے گا تو اسے مرنے والے کی آخری پوشاک کی اندرونی جیب میں ڈال دے گا۔ جہاں باؤ کے پھول جیسے معصوم بچوں کی تصویر بھی ہے۔ جب متونی کی آخری چیزیں اس کے وارثین کو واپس کر دی جائیں گی تو یہ خط بھی دیگر چیزوں کے ہمراہ ہینگی پہنچ جائے گا اور وہاں باؤ کے رشتہ دار اسے پڑھیں گے اور پاکستان کے شمال سے آئے محبت نامے کو فریم بنا کر باؤ کی تصویر کے ساتھ ہی گھر کی دیوار کی زینت بنائیں گے اور پاک چین دوستی کے رشتے کو امر کر دیں گے۔

جس خبر میں باؤ کی موت کا ذکر تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ دستگیر دوں نے کوئٹہ سے 700 کلومیٹر دور جب کے مقام پر اسے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ باؤ! تمہاری خاکت دغون میں غلطان لاش جب نظر سے گزری تو ایک لمحے تک حیرت کی تصویر بنا رہا کہ وہ کون تھا جس نے تمہاری ماں کی محبت کو تم سے چھین لیا۔ وہ کون تھا جس نے پاکستان کی تعمیر و ترقی سے مربوط تمہارے ارمانوں کو حب کی ویرانوں میں ملیا میٹ کیا اور وہ کون تھا جس نے تمہارے بچوں کو مفارقت کا داغ دیا اور وہ کون تھا جس نے پاک چین دوستی کے رشتے کی ڈور کو کاٹنے کی کوشش کی۔ ایک اجنبی کے ہاتھ لکھے خط کو پڑھ کر حیرت تو ضرور ہوتی ہے۔ یقیناً تمہیں بھی اس کا احساس ہوا ہوگا بہر حال میں پاکستان کے شمال میں واقع گلگت بلتستان کا شہری ہوں۔ گلگت کا نام تم نے بھی ضرور سنا ہوگا کیونکہ پاکستان کی چین سے 363.5 میل پر محیط سرحد اسی علاقے کی توسط سے صوبہ سکلیانگ سے ملتی ہے۔ گلگت کی شاہراہ قراقرم دونوں ملکوں کی زینتی رابطے کی واحد ضامن ہے گو کہ شاہراہ ریشم پر تجارتی سرگرمیاں تین سو قبل مسیح سے جاری ہیں لیکن 1978 میں اس شاہراہ کی تکمیل کے بعد دونوں ملکوں کی تجارتی سرگرمیوں میں ایک انقلاب آیا اور اب سی پیک پراجیکٹ کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی علاقے پر ہے۔ چینی مصنوعات اسی شاہراہ سے گزر کر گوادر پورٹ پھر پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہیں اور پاکستانی عوام چین کی تیار کردہ اشیاء کو دیگر ملکوں کی بہ نسبت ایشیا سے خریدنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھا جائے تو چین کی تانگت عہد (618-907) عیسوی میں یہ خطہ چینی ریاست کا حصہ تھا اور معروف چینی سیاح اور بدھ مت کے پیروکار فاہیان 399ء جبکہ ایک اور چینی سیاح ہیون سانگ 627ء عیسوی میں اسی علاقے سے ہو کر انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا پہنچے اور اس سفر کے ذریعے انہوں نے بدھ مت سے متعلق دستاویزات جمع کیں اور چین لے گئے۔

میں اپنا تعارف کراتے کراتے گلگت بلتستان کا قصہ سنانے لگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ قلم قبیلے کا ایک مزدور ہوں۔ پاکستان کے انتہائی شمال اور چین کے انتہائی قریب ہونے کے باعث لگتا ہے کہ جیسے چین سے میرا کوئی روحانی اور فکری تعلق ہو۔ لوشون، ماؤتوں، تونواو، پائی جیسے روشن فکر ادباء و شعراء اپنی تجارتی اور نظموں میں مجھ سے ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے ہمسائے ہوں اور میرے ساتھ والے گھر میں رہتے ہوں جبکہ ماؤزے تنگ اور چو این لائی جیسی ہمہ جہت اور لائق تقلید شخصیات میرے زندگی کے ہر مشکل موڑ پر آگے بڑھنے کا حوصلہ بخشتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں تمہارے ملک کبھی نہیں آیا لیکن تمہارے عظیم ملک کے خدو خال اور تمام تر رعنائی مجھ پر آشکار ہے اور جب بھی فرصت کے کسی حسیں لمحے میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ رات گئے ارچی کے کسی بازار میں کسی بے گھر جوگی کی طرح آوارہ گردی کر رہا ہوں اور اب بھی تمہیں یہ خط لکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ہینگی کی کسی منڈیر پر بیٹھا تم سے بہکام ہوں باؤ! یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کا ملک 19 ویں صدی کے درمیانی حصے میں مغربی ممالک اور جاپان کی لوٹ کھسوٹ کا نشانہ بنا اور رفتہ رفتہ نیم جاگیر راند اور نیم نوآبادیاتی معاشرے میں تبدیل ہو



2nd Prize : English Essay

Dear China,

Yours is a name that's stored in the oldest and deepest niches of my memory. Terms like "higher than Himalayas" and "deeper than oceans" are something that every Pakistani child hears on television long before they can understand their meaning. Even before I was familiarized with the complexity of this world, the intricate mechanics of international politics and statecraft, I knew you were someone to be relied on. 'A friend!' that's the first association of you that was impressed upon my blossoming mind.


As I grew up and learned more about you, I was amazed by the sheer multitude of dimensions to your existence. Pegged to the firm roots of a civilization that goes back millennia, you cradle a society that has stood the harshest tests of time; a resilient survivor of wars and blood, political turmoil and conflicts, scarcity and confusion. The legacy you inherit can only be claimed by a few nations on the planet.

Your community hosts an exuberant array of beliefs, traditions, rituals, and values that are as unique as they are vividly colorful. It is a sophisticated and elegant culture engulfing arts, education, philosophy, literature, architecture, festivity, trade, martial arts, calligraphy, embroidery, wedding rituals and whatnot. There is a great room for cultural bonds between our countries and filling it up will deeply compliment the strategic and economic partnership we desire to have.

I haven't had the chance to visit you in person. But from what I know, we have a lot more in common than meets the eye. Primacy of the state over individual and the strong family system is what I can relate to in particular. In search of peace and meaning, I have been greatly influenced by the philosophical and spiritual doctrines like Buddhism and Confucianism that have a history of widespread appeal among your nation.

When I think of Chinese people in general, the first image that comes to mind is of cheerful, humble and jolly-looking people speaking a language that sounds total gibberish to me. Despite the largest population on the planet, which could have been a liability as well, they have risen as a well-integrated nation, all heading in the same direction, sharing the same ideals.

I have a great admiration especially for what Mark Twain astutely summed up as "A disorderly Chinaman is rare, and a lazy one does not exist". Industriousness and sincere hard work is an integral part of your work ethic; something very prominent to an outsider. It appears to be something built-in, like a genetic trait. I have had an opportunity to interact with a few Chinese salespersons, technicians and engineers during my career and all of them were a testament to Twain's observation. I wonder if it is you who is really active or rest of the world has gone lazy.





While the story of where you are coming from is fascinating in itself, I am more intrigued by where you seem to be going. The way you have turned your agrarian society into an industrial and technological powerhouse during the past few decades has amazed the world. It is the period of self actualization, I believe, of the great potential you always had owing to the population, area, and social values. Flooding the global market with the ubiquitous 'Made in China' tags, you are clearly heading towards global dominance in production, trade and technology.

It has always been a dream of mine to travel the world and experience the diversity of nature, perspective, culture, people, lifestyle and food. To a seeker, you have a rich variety of attractions to offer from historic sites and natural landscapes at one end of the spectrum to huge skyscrapers, engineering marvels and exciting metropolises on the other. What lures me the most is the antiquity, tradition and modernity blending into this mysterious aura surrounding my mental image of you. The Great Wall, Forbidden City, Terracotta Army, Spring Festival and Peking Duck are definitely a must on my list.

These are desperate times, my friend. Politics of hate and bigotry is on the rise everywhere. A new class of leaders is emerging, preaching the masses about how different we all are, how threatening our presence to each other. I believe countries like ours are the perfect antithesis to such ideologies. Let's keep being an example that human cooperation and goodwill can transcend the boundaries of geography, race, religion, culture and language. Let's be a ray of hope among all the hatred, intolerance and prejudice.

Best wishes for your journey to become the greatest country in the world. Hope you don't get lost. See you soon.

Yours sincerely,
A Pakistani

Hassan Ahmed




2nd Prize : English Essay


To Zhōngguó,

Ni hao! Forgive me, for studying your language in my current semester seems to have turned me into a pretentious Bājisītāni—which is actually only partly different to how we usually are. Beloved China, I believe our fates were intertwined even before our counties' actual conception, by the two-thousand year Old Silk Route winding its way through our hearts to leave a deep-rooted, trench-like impression that would last for hundreds of generations to come.

My own generation also carries proud scars of this history and I felt rather than saw them emanating this aura throughout my life. My earliest and fondest memory of you is back when my entire flock of five siblings—four really, since my younger brother was practically only a dumpling then—used to flop ourselves on our three-seater-turned-five sofa on languorous Sunday evenings and wait on tenterhooks for our father to pop in the new DVD he had rented from the nearby media store (the one with the offensively large blow up of the most recent Bollywood blockbuster). But the movie itself was never a Bollywood flick, no. It was always, always of the actor whom we considered to be pretty much our very own paternal uncle; no other than Jackie Chan. Oh how we adored his miraculous escapades, his exasperatingly hilarious partners and their inevitable mortifying failures! He sprinted, somersaulted and karate-kicked himself into our hearts and no amount of lingual, racial or religious differences could prevent his entire country from tumbling in along with him.

That was the initial sowing of the seed of affection for you that started to bud as I advanced in life. Since my quaint little convent school was replete with a vast multitude of ethnicities, I never did develop the urge to ogle at every foreigner. One of your children, Danny, used to commute to and from school using the same van as me and my best friend's. His mother ran the local parlour, "Alan's" which was our entire sector's saving grace when puberty sprouted uninhibited out of our upper lips. Now, if one has ever seen a Suzuki carry, or a 'carry daba' to sound more local, they would realise how preposterous it is to attempt to carry out a private conversation in it. One's knees, feet and shoulders are almost always in contact with someone else's, and only at times like those did I thank God for my elf-like stature, since our driver uncle used to simply pluck me straight out of the window like a kitten during my pre-primary years. This Dany was a tiny little thing as well, with slanting, cat-like eyes and a skin to make Tyra Banks envious. Four years our junior, it was a wonder how he understood the vain gossip that all teenage girls fall prey to, and his eyes would enlarge just a little when he listened with rapt attention at our astounding ability to discuss everything from our crush's new haircut to the exact number of moles on my right leg. Nonetheless, he was an avid audience to our pointless banter, and there was a special kinship we had with him and his mother, who never failed to lavish us with an influx of discounts and coupons, thus instilling the thought of you, their home-country, being as magnanimous as them.





As I grew older, cricket tournaments, talks of restrained water supplies and the audible grumblings of elders carved the notion of an ever-present thorn digging into our country's eastern side. "Control" is not a word friendly to second graders, and when I first heard of 'The Line of Control' in social studies, my childish heart inwardly squirmed in rebellious distaste. Conversely, the jagged peaks of the North beckoned to me like a wizened ancient, seemingly unapproachable at first but as innocuous as soft, untainted snow in actuality. Being prone to bouts of wanderlust, I always preferred Geography to its drier partner and took a strange pride in our North—for it wielded the second highest mountain of the world. So, upon hearing of your creation Karakoram Highway, it was no surprise that my eight-year old self considered you no less than our affable next-door neighbours, whose children's feet pit-patted across their balcony to ours to save time. Within the thorn-like stinging from our east, constant unrest from our west and a general exudence of distrust worldwide, you, our upper-story neighbours, seemed like the friendly, giant-like Hagrid, embracing us with open arms and refusing to budge from our side even in times of mortal turmoil.

Your esteemed Confucius' Golden Rule was to 'not do onto others what you do not want for yourself', which is profoundly similar to our beloved Prophet's 'love for your brother what you love for yourself'. Such semblances juxtaposed between variance is what makes our friendship so beautiful. We find it possible to amorously sing 'Pak-Cheen dosti wang woye!' because honesty, integrity and good virtues do not belong to one religion or sect or ethnicity at all. It is a collective aspect of humanity, ingrained within each and every one of us, waiting to be plucked and pruned and primed to perfection. One just needs the right person by them to do so.

Zhōngguó huìyì zài wǒ de xīng lǐ!

Love,

Bājīstān

Momina Arif



2nd Prize : English Essay

March of the Chinese Dream

Contemporary socio-political world is being disrupted by profound tectonic shifts in ideas which have long informed nation-states in the past decades. This disruptive transitioning period in global affairs is disconcerting nation-states in the orient and occidental worlds. The surging nationalist fervor, xenophobia and ethnocentrism alongside trade behavior of protectionism in the Western World dawning upon the people that ideas which originated in Occidental world in previous centuries have reached the point of diminishing returns.

In this disruptive transition, the world seeks an alternative set of ideas on politics, governance, economy and culture which empower people and give them a sense of security, stability and harmony. This alternative set of ideas is what Modern China represents to the rest of the world which is struggling with anarchic instability and cultural decadence.

The remarkable transformation which China had underwent in previous century presents to the world an exemplary country to emulate. Lifting over 68 million of its people over the poverty line in past five years and highly ambitious plan of eradicating absolute poverty by 2020, China has much to offer to the world, particularly to Pakistan and its people, besides economic ideas. China and Pakistan shares a time-tested and enduring fraternal relationship which is distinctively personal than any foreign relations among nation-states.

China is among the very first countries which are introduced to Pakistani students in their textbooks to develop their geopolitical understanding of the world. Chinese great feats in economic prosperity, governance stability, mutually beneficial trade and foreign relations and Confucius cultural values are received positively and are part of conversations in most of the Pakistani households and educational institutes.

Chinese history of upholding values such as collectivism, social harmony and unity among people along with cultivating strong industrious spirits among its people are values that people in Pakistan belonging to all walks of life so enthusiastically embrace and strives to practice in their lives.

The story of Yellow River in ancient Chinese history represents how people choose to forgo their differences to collectively strive to strengthen each other and resolve their protracted bigger problem. This historical event in Xia kingdom show how people with differences could resolve an extraordinary mutual problem through sheer exhibition of prodigious unity.

Further, Chinese history taught the world regarding the importance of retreat for greater victory. The Long March undertaken by Chinese Communist Party in 1934 characterizes that people sometimes need to retreat than to be at offense all the time. It also enshrine in it the lessons of indefatigable perseverance, adaptability, unwavering commitment to the idea and dauntless belief in the leadership. These essential lessons are integral part of any stable and thriving leadership and state.



More so, in contrast to mainstream perceptions, China is not a nation-state in the western conception of the word. As Martin Jacques noted, 'One of the major problem with westerners analyzing China is that they tend to view it as a nation-state while it is, in actuality, a civilization-state'. This view is all the more relevant contemporarily when western policymakers tend to ignore Chinese civilizational history and ethos and resort to ideas of Westphalia and Age of Enlightenment in assessing China's policies toward social institutions like family, religion, education, politics and economics.

China with its own centuries of traditions, values, norms, ideas and ethos cannot plausibly limit itself to a concept of a nation-state which merely originated recently in comparison to elongated timeline of Chinese history. The success of Modern China lies in its pursuit of its own distinctive ideational elements, suited to its culture and geography and drawn extensively upon its own civilizational history by interpreting ancient texts like Thirty Six Stratagems, Sun Tsu's Art of War and Luo Guanzhong's Romance of the Three Kingdoms.

However, if China really aspire to reconstitute global order by reforming present multilateral organizations and adhering the chaotic geopolitics to a sense of law and order then it is imperative to take this venture beyond the paradigm of politics and economics. One of the essential feature of post-war liberal internationalist order was its paradigm of knowledge and underlying belief in its universality.

China in unity with other regional entities like Pakistan and Russia should engage in cultivation of a parallel knowledge paradigm, starting with the harmonious effort by cultivating the idea of man. China, in cohesion with other nation-states, can seek to interpolate between the Hobb's notion of Brutish Man to Fukuyama notion of the Last Man by cultivating its own notion of a Collectivist Man.

This ideational view of a Collectivist Man shouldn't be monolithic like western conception of man and accommodate the rich tapestry of eastern civilizations, therefore an idea of man articulating values of adaptability, heterogeneity and cosmopolitanism.

Aside from this grandeur undertaking, China and Pakistan could strengthen their people-to-people contact by undertaking joint production of films and dramas through entertainment industries of both countries. Moreover, both countries could embark on initiating cultural tours for graduate students to develop cultural relativism of each other. Additionally, universities of both countries could develop a specific postgraduate program of Sino-Pakistan studies to build a generation of scholars who are integrated with cultural understanding of both nations.

Besides geo-economics, both countries can gain incredibly by facilitating close liaison between their academicians, journalists, graduate students, filmmakers and intellectuals etc. Integrating their people as well as their economics authoritatively should be the end goal of this relationship.

Name: Hassan Zaheer

گذشتہ کچھ عرصے سے راخباروں میں ایسی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جن پر نظر پڑتے ہی ذہن مکدر اور طبیعت بے مزہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسی خبریں کہ چین کے فلاں شہر میں مسلمانوں پر فلاں پابندی عائد کر دی گئی۔ اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم پاکستانی دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنی برادری سمجھتے ہیں۔ ان کے دکھوں پر آرزوہ خاطر اور ان کی خوشیوں پر مسرور ہوتے ہیں۔ اسی لئے یہ خبریں ہماری بے لوث محبت اور چاہت کے باوجود بھی دل میں ناگواری کی ایک جھلک پیدا کر دیتی ہیں۔

اسی لئے اے میرے عزیز دوست

اپنے شہریوں اور حکمرانوں تک میرے اس مکتوب کی وساطت سے ہم سب پاکستانیوں کی یہ محبت بھری استدعا اور پیار بھری درخواست ضرور پہنچا دینا کہ، جیسی محبت میں اور میرے دیگر ہم وطن تم سے اور تمہارے بچوں سے کرتے ہیں، وہ اس طرح کی بد مزگیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔

، اور دوست

اس بات سے تو تم بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہماری اور تمہاری دوستی کئی بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے۔ وہ موقع کے انتظار میں ہیں کہ کب انہیں ہمیں تم سے اور تمہیں ہم سے بد ظن کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان غلط فہمیوں کا استعمال کر کے وہ ہماری محبت کے شیشے میں بال پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کو بطور ہتھیار استعمال کر کے وہ ہمارے اتحاد کی دیوار میں کوئی معمولی سی بھی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔

اسی لئے ہمیں مل کر، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اور ان تمام تر معاملات پر سخت اقدامات اٹھا کر چلنا ہو گا جو تمہارے دل میں ہمارے طرف سے کوئی ملال لا سکتے ہیں اور ہمارے دل میں تمہارے لئے کوئی کدورت پیدا کر سکتے ہیں۔ گفتگو چونکہ طول پکڑ رہی ہے اسلئے اس وضاحت کے ساتھ کہ مقطع میں یہ جو سخن گسترانہ بات آن پڑی ہے، اس سے مقصود قطع تعلق ہرگز نہیں، بلکہ ہمارے باہمی محبت کی مزید بڑھوتری اور مضبوطی ہے۔ دعا ہے کہ یہ دوستی اور محبت سدا یونہی قائم و دائم رہے۔

فقط

تمہارے پڑوسی اور دوست ملک سے تعلق رکھنے والا تمہارا ایک مدح سرا -

Name: Abrar ur Rahman

2nd Prize : Urdu Essay

پیارے چائہ۔۔

عجیب سا تو لگ رہا ہے کہ کسی ملک کو ایسے القاب سے مخاطب کیا جائے جیسے زمین کے کسی خطے کے نام ایک تخیلاتی "نامہ" نہیں، بلکہ کسی عزیز از جان دوست یا پھر پرانے رفیق کو خط لکھا جا رہا ہو۔ مگر یہی تو میرے اور تمہارے، [پاکستان اور چائہ کے]، رشتے کا حسن ہے کہ یہ رسومات کی سرحدوں کو پار کر کے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ اکثر پاکستانیوں کے لئے یہ تعلق ایک قیمتی سرمایے، بلکہ حرز جان کی صورت اختیار کر گئی ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ یہ رشتہ اس قدر خاص ہونے کے باوجود کبھی اس کے بارے میں شعوری طور پر سوچنے کی نوبت نہیں آئی۔ آج جب پاکستان چائہ انسٹیٹیوٹ کے وساطت سے یہ مکتوب قلمبند کرنے کا موقع ملا تو یکبارگی ذہن میں تم سے وابستہ التفات و محبت پر مبنی خیالات کا ایسا ریلہ در آیا کہ فصیح و بلیغ اصطلاحات بھی شاید ان جذبات کو جملوں کی صورت نہ ڈھال سکیں۔۔۔

لیکن اپنی تحریری کم مائیگی کے باوجود میں کوشش کروں گا محض "اقرار محبت" کی حسین رسم نبھانے کے لئے یہ داستان رقم کر کے چھوڑوں کہ شعور کی پہلی سیڑھی چڑھنے سے لیکر عمر کے اس حصے تک کا سفر طے کرنے کے دوران تم سے محبت کی کونسی منزل کب اور کیونکر طے کی۔ اس سے زیادہ طولانی تمہید کہیں اس مکتوب کے اصل مقصد کو ڈھانپ نہ لے، اسی لئے میں سیدھا قصہ الفت کے ابتدا کی طرف بڑھتا ہوں۔

اس محبت کے گلستاں کی کونسی کلی کب چٹکی یہ تو یاد نہیں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، تب سے معلوم ہے کہ چاہے زمین و آسمان ایک ہو جائیں، لیکن پاک-چین دوستی ہمالیہ کی اونچائیوں سے بلند تر، اور بحیرہ عرب کی گہرائیوں سے عمیق تر ہی رہے گی۔ اور ایک مجھ پر ہی کیا موقوف، قیام پاکستان کے کچھ ہی عرصے بعد، [1951 میں]، بویا گیا پاک چین سفارتی تعلقات کا بیج آج اس قدر تناور درخت بن چکا ہے کہ آزادی کے بعد پیدا ہونے والی ساری نسلیں اس سے کسی نہ کسی صورت مستفید ہو چکی ہیں۔

میرا تعلق پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع وادی چترال سے ہے جو کہ مکانی لحاظ سے پاکستان کے دیگر کئی علاقوں کے نسبت تم سے زیادہ نزدیک تر ہے۔ مستزاد اس قرب پر یہ کہ، میری جنم بھومی میں جاری کئی ترقیاتی منصوبوں میں تمہارے بہت سارے بچے [یعنی چائیز باشندے] تب سے کام کر رہے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ سو ان انجینیروں، کاریگروں اور محنت کشوں کا میری وادی کو خوبصورت اور ترقی یافتہ بنانے کی کوشش کا حصہ بن جانا میرے دل میں پہلے سے موجود تمہاری محبت کو مزید پختہ کرتا چلا گیا۔ دن گزرتے گئے، اور میرا تمہارا تعلق نکھرتا گیا۔ اور آخر کار وہ دن بھی آگیا جب میں شعوری پختگی کے منزل کی طرف سفر کرنے لگا۔۔ کسی بھی پڑھے لکھے فرد کی طرح میں بھی بین الاقوامی امور پر نظر ڈالتے ہوئے اقوام عالم کے ساتھ تعلقات کو ملکی مفادات کے ترازو میں پرکھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب چائہ کے ساتھ تعلقات پر بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو پاک چائہ اکنامک کوریڈور اور دیگر نفع بخش منصوبے بعد میں ذہن پر دستک دیتے ہیں اور یہ بے ساختہ نعرہ ذہن میں پہلے گونجتا ہے کہ "پاک چین دوستی زندہ باد"۔ ان امور پر توجہ بعد میں مبذول ہو تی ہے کہ ہر سال پاکستان کے کئی طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے تمہاری جامعات کا رخ کرتے ہیں اور پاکستان کی تعلیمی درسگاہوں میں بھی تمہارے سپوت پڑھنے کے لئے آتے ہیں۔ یہ خیال بھی بعد میں آتا ہے کہ پاک چائہ اقتصادی راہداری کے قیام کے ذریعے سے ہمارے بیچ ایک ایسا معاشی، معاشرتی، سماجی اور عمرانی تعلق قائم ہو رہا ہے کہ جس کے پروان چڑھنے اور کامیابی سے ہمکنار ہونے کی صورت میں ہماری جوڑی عالمی افق پر ایک ایسی مضبوط قوت بن کر ابھرے گی جو تمام تر امور میں دنیا کی قیادت کرنے کی اہل ہو گے تمام اقوام عالم کی توجہ اور دلچسپی کا محور و مرکز ہو گی۔

مگر دوست

یہ ایک فطری امر ہے کہ جہاں پر اپنائیت اور محبت ہو، وہاں پر لگاؤ اور شکوے بھی ضرور ہوتے ہیں۔

شاید اسی طرح کی کچھ تلخیاں ہمارے رشتے کے بیچ میں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔



3rd Prize : English Essay


China,


A fair heighted, slightly pale, hands clasped at the back, warmly smiling and enthusiastically shaking their head even though they don't understand you but encouraging you to express yourself nonetheless. Click. China. That's what comes to my mind when someone says China. Now if you zoom into that picture, around the eyes are the wrinkles of a genuine smile. Not your customary business smile that says "I am just interested in personal profit" but a smile that says that "I am happy to have you". A genuine smile indeed.

I like to personify things, makes them easier to understand and remember. So, I think of countries as an individual being. Not your typical stereotypes but just the known facts that may differ with time and exposure. But China, China doesn't change. It's like it's engraved in my mind like that.

To me the whole world seems like a High School. Silly, I know, random, you bet. But it's either I am still in that academic phase or the high school teen dramas have recently flocked the entertainment. So, America and England are your popular kids. Germany and Russia are the jock. France, the prom queen. Canada is the one who is friends with everyone. A few are the bullied. India is the competing nerd. And Pakistan is "that kid". The one that gets mocked for being young and immature, and teased for having no good connections with the popular kids but talented nonetheless. Now you would ask how China fits in this whole picture. Then let me say China is "that Senior". The one anybody wishes to have.

That senior that lives nearby in their house made of earth and wood with doors facing south and the furniture so intricate and delicate that you fear breaking it by breathing too close to it. Their ancient history framed on its walls and a little hum echoing in their rooms that appease your soul. He always has something warm to serve you while you share your thoughts and concerns about future, peer pressure, economic stability and freedom while sitting on its porch soothing your eyes with their landscape styled garden. As he sips on his tieguanyin tea that you wonder is the cause of his youthfulness at this age, you voice your own thoughts that have been bubbling in your mind for quite some time. "Why are you friends with me?". His curious gaze encouraging you to ask further "Me, Pakistan. The one that people thinks cannot make it to the end. It's not like we are alike in ancestral history, culture and religion or even if you count the economic stability, geopolitics and power it just doesn't makes any sense. So why invest so much time and money. Why not just business and profit. Why are you friends with me?" Placing the cup down with a smile cracking on his face he says "Come with me." Following your way through the Chinese garden bound to mesmerize you with its architectural harmony and repose you found yourself face to face to a Pine tree. "Pine tree means longevity, dignity and virtue in Chinese culture" he explains. "Pine is evergreen and that is why it's a symbol of our iron friendship". Running your hand on its strong trunk you feel the marks of history beginning from 1950 and going through 1962, 1966, 1972, 1979, 1989, crossing the century to 2015, 2017 and still continue with its branches reaching sky. A tree doesn't grow in a day. It stands the test of time; it faced the heat of political pressure in summer, the rains of expectations, the autumn of natural geographical adversities, withstood the isolating cold of winter to





fulfill commitments, the spring when the snow was thawed with warmth of emotions and respect ensuring a period of mutual growth and development yet holding the courage to face the ever possible change with a strong resort "You saw the tree in me when other viewed me just as a seed. So, its natural of me to protect you and help you grow into the tree I see in you." How else do you name it?

So, China is that senior that you are proud to call "Your friend". In this aforementioned high school where the term 'Survival of the fittest' acts its best and people make connections and agreements just so they can march on the surface of the earth for the longest, China is Pakistan's camaraderie that based its friendship on mutual emotions rather than just mutual benefit, guiding like an experienced senior in state progressing affairs and global image yet never failing to defend Pakistan against the collude bullying for power like a true friend making other envious of this team of ONE AND ONE TURNED ELEVEN. A walking example of the Chinese proverb that roughly translates as 'With the passage of time one observes that during cold the last to dwindle are the Pine and Cypress, and only in the hour of need one come to realize who is the most genuine friend.' How else do you explain it?

I hope we are more able to secure this feeling through educational tours so people even like me can speculate it on their own and silly enough take pics with Chinese Pine tree with smile reaching their eyes. A genuine smile indeed.

Love,
Pakistan.

Name: Azka Arshad




3rd Prize : English Essay

My dearest China,

I hope this letter finds you well and in the best of your spirits. As I write these lines, the two Koreas are engaging in dialogue and normalcy is gradually finding its way back to the region. The foreign perpetrated turmoil is finally receding and it is solely the result of your continuous efforts and your commitment to the cause of peace. I congratulate you on your success and I hope that you meet similar success on other fronts too.

The world of today is China. The world of tomorrow is going to be China. But I remember a China that was in the process of becoming what it has become today. I take pride in the fact that I as a Pakistani was a partner in China's progress. I was a well-wisher who only wished good for his Chinese brethren. I felt proud of every Chinese achievement and thought of it as my own. I considered any threat to Chinese security and integrity a threat to my own security and integrity and the best part in all this is that the Chinese concurred my emotions, they shared my sentiments and they reciprocated them in their own special ways; from the Heavy mechanical complex, Taxila to the Gawadar port, China has played its part to best of its abilities and in the best interests of the people of Pakistan. The People's Republic of China is the friend of the people of Pakistan. No other country enjoys such goodwill and warmth among the people of Pakistan; it is China and China only.

The seeds of respect and friendship towards China were sowed in me at a very young age. From my classroom to my family conversations, China always enjoyed a revered position. Its name was always taken with respect and with positive connotations. I grew up in Wah Cantt, home to our ordinance factories; a marvel who is a creation and a prime example of China-Pakistan partnership. There were a lot of Chinese engineers who were and are an integral part of those factories and played a pivotal role in making Pakistan self-reliant when it comes to its arms and ammunition needs. The year was 2001 and China and Pakistan were celebrating the 50 years of their diplomatic relationship and the slogan of Pak-China dosti wang woye (long live) was a rage amongst all us kids. So, whenever and wherever we use to see the Chinese we use to chant Pak-China dosti wang woye at the top of our voices and the Chinese brothers and sisters use to respond to it with a smiling wang woye. That memory is still imbedded in my head and whenever I think of China this is the first thing that pops in my head. As a Pakistani, I would always like to see this friendship growing and getting stronger. However we should be aware of all the detractors that want us both to fail. Their agenda is to act in the benefit of their foreign masters and while doing it they have not been able to see the bigger picture which shows that by combining our forces we can rule this world. The Chinese example has taught us that we can benefit collectively from an opportunity. The belt and road initiative (BRI) is the physical manifestation of it.



The threats that I have mentioned in the above lines are real ones and are needed to be attended jointly. To fight this war Pakistan and China are required to put up a joint effort and as this war is not a simple one so the policy to tackle it should also be multi-pronged. Foremost of it is that both the countries should encourage people to people contact. This contact is very important to diminish all the rumors that are being spread in Pakistan against China. Other than that China should also address Pakistan's concerns towards the trade imbalance. China can obtain quality agricultural products from Pakistan on competitive rates. In the times of free trade agreements such preferential treatment is hard to give but this is in the greater good of both the countries. The main reason behind USA's dominance is its technological advancement. Although currently, China is investing a lot in research and development projects but they are doing it single handedly. It would be better that China includes Pakistan in these projects. This step will empower Pakistani academics and researchers and will introduce them to the latest trends while it will also give China an opportunity to use the talents of Pakistan's academics and professionals. Joint universities, colleges and vocational institutions should be established. In these institutions, Pakistani students should be educated and trained so that they can compete and excel in their respective fields. Pakistani professionals should be provided with scholarships to pursue higher education in Chinese institutions. This initiative will bring two prime benefits one, the input from the Pakistan students will help the Chinese institutions to improve and two the dependence of Pakistani students on western universities will also decrease.

China and Pakistan has forged a partnership that is not only beneficial for both of them but is also in the best interest of the region. I once again thank you for all your love and support. It always feels great to have you on our back.

Pak-China dosti wang woye

Regards,
Muhammad Aizzan Malik
aizzan_malik@yahoo.com



3rd Prize : English Essay

Dear China!

Something I am wondering from a very few days that I can spot my people in the world be them Pashtun or Punjabi. But, could never understand that why those people in cheongsam and shalwar kameez seem alike? Why those reverends of Famen temple remind me of the preachers of Faisal mosque? Why Chinese never understood yet sound familiar? To find the answer I remembered the time, when we stood on each other's side.

1962 and '65 clicked my mind as soon as I thought of that time. Be it India or Israel, I know they would not be able to harm even our bee.


the strength and power which we hold together; is still more against the world if gathered 1971 had really been tough for me when, I was torn apart from my other half (East Pakistan). My own men stood against each other, but I found you standing by my side.

I feel incomplete and cry every night; but forget my sorrows, finding you in my sight Every year I celebrate Eid and festivals with complete contentment, because I know that my soldiers are armed with the best Chengdu J-10B and JF-17 Thunder fighters which was only possible with your partnership and cooperation.

I lost my hope to survive when those religious fanatics, attacked those angels in school uniform (Peshawar attack, 2013). I found your shoulder comforting when you rehabilitated my students to cop up with life. But, all that support left me in grief; when an atheist taught me the religion of peace.

I felt isolated when the world called me a terrorist state, but your endeavors to fight against my war has made me stronger. My belief in you elevated when you raised a voice for me to grant a waiver in NSG (Nuclear Suppliers Group) opposite of India in 2015. Remember, every thick and thin we have gotten through; one thing is certain that I will always be there for you.

Decades of friendship and trust has now tied us in a life-long association of economic collaboration. CPEC might be a billion-dollar project for the world, but for us it is a notion to endorse unity, interdependence and coordination. I want my people to earn prudence and foresight through this initiative, not just the projects for business and money-making. Chinese are known as preservers of their rich cultural heritage and insight of life. I want my people to learn from China, customs and values to rise from ashes in a peaceful way. You have already drawn attention of the world by your structural reforms which have alleviated the GDP of country, faster than ever any country has obtained. Also, the bicycle-kingdom, has set an example for world for how to be economical and environment-friendly. But, your architectural geniuses have blown the minds of people from around the world either it is the Great Wall of China or terracotta army, all heads are turned towards you.



People of Shaanxi Province, fascinate me the most; can you make my people as efficient as those I have heard millions of them live in caves, their acuity and thriftiness has influenced me to the greatest degree. It would be appreciable, if they teach this resourcefulness to my homeless people, swapping skills with Daachi arts and crafts.

I want to see my culture through the mountains of Wugong; striking through the beautiful streets of Hong Kong.

How would ajrak, Balochi embroidery and Kashmiri shawl look being sold by Chinese. I have seen my people eating chow main but, it would be a pleasure to see Chinese enjoying biryani or karahi.

That would be the day of my relief; when culture of Pakistan meets Chinese
Pakistan-China friendship should not only remain between the officials but should reach out to every Pakistani and Chinese family. A treasure of cross-culture if reside in every household of Pakistan and China, we will become more of a family than only friends.
Now I know that why I found Pakistan in China, it is the bond we share across the border, a clear manifestation of connection of souls. Let's show this world, how the strong is our friendship: "higher than Himalayas, deeper than ocean, sweeter than honey, and stronger than steel."

With love,
Pakistan

Name: Saba Saeed
Email: saeedsaba31@gmail.com



3rd Prize : English Essay


My very first memory of China can be traced back to a carefully pruned bonsai tree that rested on the living room mantelpiece of my childhood home. This was in Lahore, and the memory decades old. My father had brought the bonsai tree as a souvenir from his trip to China.


And now, decades later, there are reminders strewn everywhere that hit as deeply as that bonsai tree: such as two summers ago, when I was cruising the marbled Karakoram Highway in the lap of Hunza valley, or driving through Lahore and studying the skeletal work of the Orange Line Train Project, or even just when I pass by F-7 Markaz and am reminded of the hotpot dinner I had with friends the week before. The mark of the Chinese people and their hard work glare through in so many such reminders. While opponents may argue that projects such as these are mere gestures on the part of the Chinese for their own benefit, my memory reminds me how the friendship between both countries was strong back when I was a child, and the song 'Pak-Cheen dosti wang woye' would play on state television.

And though the projects under the umbrella of CPEC have been making frequent headlines recently, China's presence in aiding Pakistan's infrastructure is no strange news. But while the news channels give me a constant stream of information on the projects undertaken by China in Pakistan, I have very little insight on the actual lives and culture of the Chinese. My curiosity on their way of life, their cultural dos and don'ts, their literature and pop culture, their music and their tourist destinations hasn't been satisfied. My fascination began a summer many years ago, when I watched "Raise the Red Lantern", a film adaptation acclaimed to be one of the finest to come out of China. My interest with Chinese history grew and I delved into Mao's policies and the rise of communist China. But I wanted to know more, but didn't really know where to start.

My university years are far behind me, but had an opportunity to visit China presented itself, I would have jumped at the chance. And this is how I think people-to-people contact between the two countries needs to be enhanced: firstly, through a series of student exchange programs with universities all over Pakistan. This could be offered in the first semester of Bachelors' degrees, whereby selected Pakistani students can be placed with a host Chinese family or the local student hostel, and vice versa, Chinese students can be invited over to spend a semester in a Pakistani university. Secondly, memorandums of understanding can be signed between major Pakistani and Chinese schools and universities. These schools can then in turn host international sports, engineering, literary and educational competitions with students from both sides of the border. Thirdly, cities between the two countries should sign up to become sister cities and conduct activities and festivals to promote cultural and commercial ties amongst one another. For instance a spice festival in a sister city of Lahore, or an architecture exhibition from the sister city of Beijing!

Another measure that can be undertaken is to make both countries more tourist friendly for one another. This could entail having road signs in respective languages, having customer service centers in the Chinese language for incoming tourists and having one in Urdu for those who choose to visit China. Maps, local guides and telephone advisory services should also be available in tourists' own languages to facilitate them.





As for perhaps the most important idea; cultural exhibitions and seminars should be free to the public where both countries display their exhibits and history to educate visitors. National museums of both countries should lend arts and artifacts for visiting displays. Cinemas should run popular films of the other country with subtitling in local languages. This would make headways in getting people to understand one another. Teams of writers and artists can be invited for retreats to the other country and encouraged to project the host country back home. And it shouldn't stop there. Pakistani dramas are known for their strong storylines and character development. These dramas should be played on Chinese television channels with subtitles. This could be the stepping stone for future collaborations in television series and movies!

There's plenty that can be done to bridge the differences of language, civilizations, and cultures between Pakistan and China. And it starts with the people getting to know each other's hearts. And I am very sure that if given the chance, and given the effort, this meeting of the hearts will thrive!

Name: Hashim Khan



میں نے بابا جان سے اتفاق کیا اور فون بند کر دیا۔

مجھے یقین ہے کہ تم میرے بچوں کو اچھے تعلیمی ادارے دو گے تاکہ یہ تمام مسائل کا حل اپنے تئیں نکال سکیں۔
اس دعا کہ ساتھ یہ خط اختتام پذیر کر رہا ہوں کہ ہمارے دوستی ہمالیہ سے بلند، بحیرائے عرب سے گہری اور ہمیشہ شہد سے میٹھی
رہے گی!

واسلام تمارا پڑوسی پاکستان

Name: FaizanA.Malik



3rd Prize : Urdu Essay

!پیارے دوست چین

ہم دونوں نے ایک خط میں آنکھ کھولی مگر میں عمر میں تم سے دو سال بڑا ہوں۔ بابا جان (قائد اعظم رح) کے بعد آنے والوں نے تمہیں سب سے پہلے تسلیم کیا، تحفہ تحائف کا تبادلہ جاری رکھا، مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ہم نے تمہیں جہاز بھیجے تھے، جس میں سے ایک انکل ماؤ بھی استعمال کرتے رہے اور جس پر آج بھی، کرٹسی باؤ پاکستان، لکھا ہے۔ ہمارے بڑوں کی شروع ہی سے آپس میں بنتی تھی شائد یہی وجہ ہے آج بھی وہ محبتیں قائم ہیں، جبکہ ہمارے گھر میں غربت کے ڈیرے میں، سفید پوشی کا عالم ہے جبکہ تم ایک ابھرتی ہوئی معیشت اور طاقت ہو، مگر اس سب کے باوجود بھی تم نے اپنے بچپن کے غریب دوست سے آنکھیں نہیں پھیریں۔ جہاں بھارت اور دوسرے پڑوسی آئے دن ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں وہیں تم ہو کہ سب موسموں کے ساتھی ہو، چاہے حالات کیسے بھی رہے، تم نے ساتھ نہیں چھوڑا، ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کوہ ہمالیہ کو کاٹ کر دنیا کا سب سے اونچا باؤی وے، شاہراہ ریشم، بنائی تاکہ دونوں گھروں کے بچوں کا آنا جانا رہے، کوئی دقت نہ ہو۔ مجھے یاد ہے میرے بچوں نے جب بھی میری حفاظت کے لیے سینا تانا، تم چٹان کی طرح حوصلہ بن کے ساتھ کھڑے رہے، جے ایف 1 جنگی طیارے بنا کر دیے، سفارتی محاذ پر ساتھ دیا، تمہارے کس احسان اور دوستی کی م ال کو یاد کروں۔ میرے بچے آج بھی تمہارے مشکور اور ممنون ہیں، ابھی چند سال پہلے ہی جب گھر میں اندھیرے تھے، روزگار نہیں تھا، لوڈ شیڈنگ سے میرا خود کوئی پرسان حال نہ تھا، تب تم نے بجلی کے کارخانے لگانے میں مدد کی۔

اور سب سے بڑھ کر 2014 میں جب شی جنگ پنگ آئے اور سی پیک کا اعلان کیا، تو میرے بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ بڑے بیٹے پنجاب کے گھر میں تو جب سے ٹرین بنی ہے، اسکے بچے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ درمیانہ بیٹا سندھ تھوڑا موڈی ہے مگر وہ بھی سی پیک کے اعلانات سے خوش ہے۔ چھوٹا بیٹا بلوچستان جو کہ مجھ سے ہمیشہ ہی خفا رہتا ہے، وہ بھی سی پیک کا اعلان سن کر میرے گلے لگ گیا اور پرانے شکوہ شکایات بھلانے لگا ہے۔ خیبر پختون خواہ تو ہر حال میں ہی راضی رہتا ہے، روکھی سوکھی بھی خوشی سے کھا لیتا ہے، مگر اس بار اس کے چہرے پر بھی دمک تھی۔

برسوں بعد اتنی اچھی خبر ملنے پر میں نے سوچا کی بابا جان کو آگاہ کروں وہ بہت خوش ہوں گے، میں نے عالم ارواح میں بابا جان کو فون ملایا۔ بابا جان خیریت سے تھے، آجکل عالم برزخ میں اپنی جنت کے باغات میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ میں نے جب خوشی کی خبر انہیں بتائی تو بابا جان نے بتایا کہ انکی کچھ دن پہلے ہی عالم ارواح میں انکل ماؤ اور انکے بچوں سے ملاقات ہوئی، انکل ماؤ نے انہیں سی پیک کی سب تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا۔ مگر بابا جان نہایت افسردہ تھے، انکا کہنا تھا کہ ہمیں انکل ماؤ اور انکے چین سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں ایک قوم بننا چاہیے۔ چین کے حالات بھی ہمارے گھر کے جیسے تھے، میرے گزرنے کے بعد ملک کا کیا حال ہو گیا، میرے بچے سکولوں سے باہر، نوجون بے روزگار اور عوام غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ بابا جان بولے کہ چین سے کہو کہ تمہیں مچھلی پکڑنے کے نہ دے، بلکہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دے۔ ہمیں قوم بننے، ترقی کرنے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا فارمولا بتا دے تاکہ میں جس پاکستان کو بنانا چاہتا تھا، وہ پاکستان بن جائے۔

اب وقتِ رخصت قریب ہے پر روشن کل بھی قریب ہے۔ سو جاتے جاتے، کچھ سنہرے خواب سنانا چاہتی ہوں۔ اُمید کے دیوں میں جھل مل کرتی کچھ راہیں سُجھانا چاہتی ہوں۔ کچھ آرزوئیں، اُمیدیں، اُمنگیں ہیں کہ جن میں ہم سب رنگے ہیں۔ آج شیئرنگ کی کیئرنگ کے بجائے "کیئرنگ کی شیئرنگ" چاہتی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ہی ایک دوچے پر آشکار کریں، اپنی اپنی دنیاؤں میں چھپی ثقافتیں، ثقافتوں کی امین روایات اور روایات کی پرچاری زبانیں۔ میں چاہتی ہوں کہ سی پیک کے راستوں پر تجارتی ڈرائے نقل و حمل کے علاوہ دوستی بسیں بھی چلائی جائیں جو دو قوموں کو ایک دوسرے کی دنیاؤں دریافت کرنے میں مدد فراہم کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ سی پیک راہیں کھولے، ایک دوسرے کے ہمسایہ ممالک سے بھی بہتر تعلقات استوار کرنے کی۔ میں چاہتی ہوں کہ دونوں خطہ اراضی میں ایک دوسرے کی تاریخی روایات کو اجاگر کرتے میوزیم قائم ہوں۔ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ممالک چھوٹی چھوٹی مگر روایتی ترجمانی کی حامل

جامعات بھی ایک دوسرے کی سرزمین پر قائم کریں جن کا نظام و انصرام، اساتذہ، نصاب، سہی کچھ خالصتاً دو تہذیبوں کا عکاس ہو۔ میں

چاہتی ہوں کہ ہر سال ایک خاص مدت کے لیے دو ممالک کی سرحدیں ختم ہوں، ویزا مفت ہو۔ تاکہ دو قومیں ایک بن کر ملیں یہ چھوٹے چھوٹے خواب، بڑے بڑے اقدامات اور طویل المدت انتظامات کے متقاضی ہیں مگر ہم منتظر رہیں گے، اُس وقت کے جب یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوں اور ہماری بڑھتی قربتیں ہمیں یک جان دو قالب کر دیں

پاک چین دوستی زندہ باد
ود لو

ترجمانِ پاکستان
ختم شد
از ایمن ریاض

3rd Prize : Urdu Essay

اے رفیق عزیز

میرا ماننا ہے : دل سے جو بات نکلتی ہے ، اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

میرا ماننا ہے کہ ہمارا چہ دہائیوں پر محیط سفر اسی طاقت پرواز کا شاخسانہ ہے جو ہمارے کئی دلوں کو باہم ملانے کا سبب بنی۔ ہمارا
رشتہ محظ ملکی نہیں یہ کرشمہ ہے "ابر عنایہ" کا جو باہم ہم نے برسایا ایک دوسرے کی آزمائشوں میں ، کہ دھو ڈالے وہ سبھی مصائب
جو ہم پر تم پر آئے کبھی۔ یہ بندھن "مطلب" کا نہیں "طلب" کا ہے یہ قبولیت کی وہ ڈگر ہے جس پر کل بھی ہم ہمسفر تھے آج بھی ہم
قدم ہیں اور آنے والا کل بھی "ہمارا" ہوگا

آج اس خط کی وساطت سے میں دہرانا چاہتی ہوں وہ باب جو سبب رفاقت بنا۔ ہر چند ہزاروں سالوں سے ہم آپس میں آشنا تھے پر میل
ملاپ اس آن بڑھا جب ہم دونوں ہی آزاد ہوئے ، باضابطہ خود مختار ہوئے ، ایک طویل خواب سے بیدار ہوئے۔ مجھے یاد ہے !! سن 50
ء کا جنوری ، جنوری کی چوتھی شام جب تن تنہا کھڑے تھے تم۔ تب ہم نے تمہیں قبول کیا۔ تمہاری خاطر سعی کی۔ دنیا میں تمہیں مقبول
کیا

مجھے یاد ہے تحریک تبت بھی جب بہت ہی بے چین تھے تم۔ مجھے یاد جہد کشمیر بھی ہے۔ تب تم بھی ہمیں تھے نہ بھولے۔ نہ ہم نے
تمہیں فراموش کیا۔ پھر موڑ ایک فیصلہ گن آیا۔ سن 62ء میں جو جنگ چھڑی "نئے دوست" اور "روایتی حریف" کی تو یہ بات پتھر پر لکیر
ہوگئی کہ "دشمن کا دشمن دوست ہے۔" تب فصلی قربت پروان چڑھی اور تن اور درخت بنی۔ نئی رفاقتوں کا تھا آغاز ، سو ہم نے اسے
مضبوط کیا 63ء۔ میں کیا ایک اور عہد اور تنازعہ سرحد دور کیا
ء کا رویہ یکطرفہ ، دوطرفہ میں بدل گیا جب 65ء کے پاک بھارت ٹاکرے میں تم نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ جنگیں سنگ میل بنیں ، دو 62
ملکوں کی ایک منزل کی

ء میں یہ اقرار ہوا کہ دوست کا تحفظ فرض ہے تب دفاعی تعلق بھی جڑ گیا۔ مزید برآں محسوس ہوا کہ "شیئرنگ" کی "کیئرنگ" بھی 66
لازم ہے تب تجارتی، اقتصادی بندھن بندھے 70ء کی دہائی میں

یہ آغاز کی تھیں یادیں کچھ

اب کروں میں حال کی باتیں کچھ

میرا مسئلہ کشمیر ، تاحال سنگین مسئلہ ہے پر آفرین ہے اس دوستی پر جو آپ کی حمایت بھی برقرار ہے۔ پس میں بھی اقرار کرتی ہوں کہ
سنکیانگ ، تائیوان کے مسئلوں پر ہمیں آپ کے موقف پر اعتبار ہے۔ ایک دوچے کے دفاع میں آج بھی دونوں کھڑے ہیں جس کا ثبوت پاک
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حالیہ دورہ چین میں چین کے سنٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل ژونگ سے ہونے والی
-ملاقات ہے، جس میں دو طرفہ دفاعی امور پر تبادلہ خیال کے ساتھ مشترکہ دفاعی جدتوں کو عروج دینا قرار پایا
کلیدی (CPEC) آج کا دور ملکی دوستی کے عوامی تعلقات میں ڈھلنے کا دور ہے۔ یہ خواب اپنا مشترکہ ہے جس کو تعبیر کرنے میں سی پیک
کردار ادا کرتا دکھائی دیتا ہے



Consolation Prize : English Essay

To China, With Love,


Standing on the gravel path, where the brightest and most colourful trucks pass by, unwinding through the magnificent mountains, beside the piercing blue water, on one of the highest roads of the world, gazing at the glorious friendship highway that connects the two friends the world looks up to, one contemplates with wonder at how both countries decided to stand together, become friends and stay true to their words for so many years.

Centuries have passed, a great many people from across the world passed through these paths. In ancient times, camels would carry silk and porcelain, times changed, nations fought and withered only to realize that that co-existence is the only route to survival. The world needs kindness and peace since there are plenty of resources on the planet to allow everyone to prosper. The inscriptions on the roadside tell about these ancient tales and the journey comes to a halt where both Pakistani and Chinese flags are engraved with the words "Long Live Pak China Friendship".

Ever since the People's Republic of China came into existence, the relationship built steadily, from neutrality and resolving border related issues to friendship, things kept getting better. Today, to some it might seem preposterous when people quote our friendship as higher than mountains or deeper than the sea, but to truly comprehend these exchanges one must look at these spectacular bridges that according to memorials are carved by blood. The everlasting friendship that rose from the co-operation leaves one awestruck.

The people are a testament to the evergreen friendship. The affection and appreciation that stems from the stories seems surreal, the cold language of statistics, the critics, fade in the background when they speak about the selfless support and sacrifice the countries gave each other in the hour of need. It is believed that happiness, when shared by two, will be doubled; suffering, when shared by two, will be halved. It is remarkable how every Pakistani from a very young age knows about the significance of the relationship. Every now and then, the chants of "Pak Cheen Dosti Wang Woye, Pak Cheen Dosti Zindabaad" (Long Live Pak China Friendship) would surface, every Pakistani remembers that whenever a calamity struck, whether a flood or an earthquake, our friends always had our back. The love was reciprocated, whenever the Chinese found themselves in trouble, Pakistan would be on the frontline to help them. "Only when the years grow cold we see that the pine and cypress are the last to fade; only when we get into trouble do we know who our genuine friends are".

It wasn't only adversity when we came together, we would talk about the Chinese nation's resilience and try to understand how they led their nation to prosperity. We celebrated every success across the border. Whenever we were taught about the festivities there, we were mesmerized, everyone would long to see firecrackers, red lanterns or dragon kites. Some Chinese migrants even developed a distinct cuisine that merged Pakistani and Chinese food and it is loved across the country. Despite having very diverse backgrounds, we would always trust our friends for without ever saying a word, the admiration for each other only grew deeper.



The world acknowledges this friendship, every research confesses that both nations have the most favorable views about each other, all because we understood the importance of collaboration.

There are obstacles too, both nations are a mosaic of different races, ethnicities, beliefs and value, some are skeptical about the decisions made between both countries. It is often taught that the world is a zero-sum game but I believe empathy can change the arithmetic. Someone winning doesn't have to mean others losing, and we need to strive together. Pakistan and China have worked hard to come all this way, and now by investing in our underprivileged population, instead of watching them suffer, we make our future sustainable. The only risk is that at some point in time, some people would try to abandon this success because they wrongly perceive it as failure.

To shrink the gap between our cultures, we need to pay more attention. The hard truth is we often overlook people because of certain complexities and many of us believe that we cannot do anything about it, which is simply not true. The investments that have been made so far show phenomenal returns and all this means a better world for everyone. For the sake our better future, I hope to contribute to this friendship, no matter how small the magnitude is, in the words of Walt Whitman; "The powerful play goes on and I might contribute a verse". With gratitude for the hardships both Pakistanis and Chinese endured to make this world a better place, I hope we stay committed to the development of our countries and utilize our skills to learn, grow, contribute and eventually make a difference. With love, to our Tiě héxīn péngyǒu (iron-core friend).

Saira Maroof.



Consolation Prize : English Essay

To China,


My home always reeked of spices, furniture, and my father's ashtray. At the dinner table, my tiny self and my much tinier nose would stoop down and stick my nose in the gravy to discover whether I was acquainted with the unfamiliar tangle that lay in front of me. The reeking spices would travel up my cringing nose, gently scratching the sides of my brain and something on the inside of my mouth would retaliate. At moments like these my father would look at me and with all the wisdom of his age and the gray hair (continuously dyed black), a smile lingering on his lips he would say, 'try it'. The gravy would turn out delicious after all.

Incredibly shy and exasperatingly socially awkward, I would use 'try it' as my navigator around the world. During my polka dot storms or in my candy-eyed swirly happiness, 'try it' would be my salvation and my albatross. These are the same words that swung in the air like trapeze swingers as I read in my crippling voice words that were ginormously five-lettered. This is when I learned two things. First, I learned your name. Second, I learned to carry you in my backpack everyday, huddled between the pages of my history book. When I wanted to find a friend, I would turn to page 55.

One night, not very different from any other night, cuddled between my parents, I sat lazily on the sofa. My then much leaner tummy was squishy and jumpy from rebellious butterflies which did not want to commit to the anxiety of a new school year. In a hazy half-eyed moment I saw two enormous lego blocks chip away and prepare to fall down with all their might. I did not understand much of the situation but I remember the silent shudder that swept through the room. The next morning my life swirled a little but I was not yet aware that somewhere in the world someone had decided who my people were. The Two Towers had fallen and we were the debris.

For some time to come, something threatening seemed to be hanging over everyone I knew. Very quickly I learned some big words to describe how we felt: pigeonholed and stigmatised.

I learned that if you wore a headscarf, you were oppressed.
If you were Muslim, you were a terrorist.
If you were asian, you were uneducated.
If your were brown, you were less dignified than the rest.
If you had a beard, you were the oppressor.
If you were all of the above, you may be, God forbid, one of my people.
I wondered if this would change things between us.



I started looking for you with greater devotion in my history book, on the television screen, in the newspaper headlines, and in the faces on the street. You were there. I was the square peg in the round hole but you were there. When my friends called me a liar and my neighbours, near and far, attacked me, I saw you behind me. My shoulders got squarer, my spine straighter, and my stride prouder. I found you in the voices that protected me and I was ready to protect you.

My friend I have never met you. Some of my people have. Some have met you at Khunjerab pass, at universities and in traveling tours, in exchange programs and competitions. They have sought your company in collaborative projects as I have sought you in my letters. I would like to greet you at Khunjerab Pass. I would like to walk through the Great Wall of China and see Shanghai, Suzhou and Hangzhou, Chengdu, Zhangjiajie, Huangshan, Guilin, Pingyao, and Chongqing. I wish our people would greet each other at more forums and conferences and speak passionately about issues of human concern. I wish our people would create idea factories and learning labs to collectively solve problems that afflict them. I wish our children would learn together, travel together and rise to greatness side by side. More than anything I wish our people would grow together in times of bliss and calamity and be the epitome of friendship.

I hope to see you soon.

With love,

Aksa from Pakistan

Submitted by: Aksa Bilal
Email address: a.aksabilal@gmail.com



Consolation Prize : English Essay

China,

Sweeter than honey, stronger than steel.

We boast of huge mountains, wide rivers and tall towers. Our love of exquisite food, wild dances and wonderful exotic items is well-known.

But always, there is more.

We may have the world's sixth largest standing force. We possess the largest deep sea-port, we own the largest irrigation system, and yes! Edhi Foundation is the largest private ambulance network. And it is ours.

But always, there is more.

People like Aitzaz Hasan and Rashid Minhas. Abdul Sattar Edhi and Aarfa Karim. MM Alam and Mahbub ul Haq. Abdus Salam and Malala Yousafzai. We've managed to garner some cream. A hundred names that require mentioning.

But always, there is more.

We're the first Muslims to have obtained nuclear power. After Turkey, we're the first Muslim country where women can take part in combat jobs. We've got the football season covered: we are the world's largest producer of hand sewn footballs.

Who is producing all these footballs, you ask?

We are the world's sixth most populous country!


But always, there is more.


The second highest mountain, the largest ATM machine, an ancient civilization (perhaps the oldest in history!). A rare species of Blind Dolphin, the second oldest and largest salt mine, the youngest civil judge. The fourth most intelligent people, the seventh largest assortment of scientists, the longest glacial structure. The largest earth-filled dam, the second most beautiful capital city, well-trained air-force pilots.

But always, there is more.

Sites like the Ansoo Lake, Mohenjo Daro and Faisal Masjid beckon the eye and capture every aesthete's heart. Our cotton, our rice and our mangoes are not to be underestimated either! We take our food very seriously: Pakistani cuisine is a delight: kebabs, naan, sajji, biryani. The variety is mesmerizing.

But always, there is more.





Hard-working, honest people whose daily bread comes from their bleeding hands. Polio workers in the north, taking every risk to prevent harm to the young. Sindhi children who witness murders like you and I would witness a routine meal session. Girls who wake up every day to get ready for school, knowing that this may be the last time they gather their books on their backs. Orphaned children who are exploited until they are made to roam the streets, begging for one small morsel of food.

But always, there is more.

There is more in our hopes and dreams. There is more in our friendships and the webs they weave. They say that a true friend is like the shade of a great tree in the noonday sun. For me, China, you have been that shade since 1950.

There may have been some bumps and hurdles. There may have been some troubles and dark, cloudy days. But always, there was a lot more we could not fathom at the time. Beyond those rough roads and tricky tracks, there was hope.

We may not have the same tastes and fashions. Our dressing styles might tend to diverge a bit. And our cultures? Miles apart!

From food to attire, culture to norms: on the surface, we may appear to be at polar opposites. But:

Todd Ruthman: It's the things in common that make friendship enjoyable, but it's the little differences that make it interesting.

These small discrepancies and insignificant divergences: they only serve to add flavor to the bond that is this treasured relationship we have with you.

Now we have a goal, one we're both working for. We've been ridiculed and the idea has been trashed several times, but we believe in this regional connectivity. This isn't just about the economic benefits. Our vision is much broader than that, for our beliefs extend beyond mere profit making.

Let us join hands in our endeavors. The struggles ahead may seem daunting; sometimes, it may feel like matters are getting out of hand as nothing goes the way we want it to. Some factors may not resonate well with us. It might feel like all these efforts are going to waste: why are there so many problems? Environmental, social, economic, political – they've even come up with amalgamations like socioeconomic and sociopolitical! We're left with a pile of rubble, trying to sort out the recyclable material.

But remember, dear China.
There is always more.

NAME: AFSAH KHALID



Consolation Prize : English Essay

Dear China,

Greetings from Pakistan!

How rightly it is said,

“Love has no boundaries”.

Though we are two different cultures, two different people, two different identities, two different nations and most importantly, two different religions but our love remains constant and this is the beauty of our relationship.

They say we are separated by the border. I say, “The border connects us two”. They say setting boundaries in a relationship is good. I say “Love Knows No Boundaries”.

This is an overdue letter of LOVE, APPRECIATION and GRATITUDE to you from your fast friend. I have been wanting to write my heart out to you for so long and FINALLY I got a chance to pen down my sincere thoughts for you.

I remember how our relationship started in 1950's when I was among the first countries who started relations with you on Taiwan and recognize the PRC, that was the start of our lovely journey and I am glad that since then many visits have been exchanged among us that led to different agreements whether developmental or educational. I love how we both support each other in the best way possible, you have always supported me on the issues of Kashmir and I thank you for that and I support you for Xinjiang and Taiwan.


I still remember the time when I was known for “TERRORISM”. People stopped visiting me and I was the “LAND OF TERROR”. My people were called as “TERRORISTS” and they were treated badly all over the world. I remember how you, my friend, never judged me for what others said, and accepted me for who I was and pushed me to be better and bigger.


I really appreciate how you are helping to develop the infrastructure by constructing power plants and roads and how you have increased your investments here and sponsored big projects like GWADAR SEA PORT, THAR COAL POWER and etc. This shows your faith and trust in me. And I promise I won't let you down, my friend!

I was delighted to know that some of your best universities like “THE PEKING UNIVERSITY” has separate departments for my national language “URDU” and your renowned libraries have vast collection of Urdu literature and Urdu grammar and the students there read and respect my literature.

Some of my citizens visited you and they loved the culture, values and hospitality there and some couldn't make it to you for obvious reasons but they would love to visit you whenever possible.

I have a number of institutes that are offering Chinese Language courses as well and my people are enjoying it to the fullest. Your language is of great diversity. They are in love with the language.





Few months ago, some of your people visited my northern side, it was nice to hear sweet things from them. They revealed that I am beautiful and majestic, the air they breathe in is fresh and unpolluted. It felt ecstatic. They rode their motorbikes and visited few areas like Naran, Shogran and Skardu and then they left for India. Convey my message to them that they are being loved here and we wish to serve them more.

Now I am excited for the new project that we have been working on called "CPEC (CHINA PAKISTAN ECONOMIC CORRIDOR)".The project is huge and provides great opportunities for the development of both the countries, its value has increased from \$46million to \$62million. It's of great worth. I am expecting some great things from this project too and I hope by the end of this project in 2020, our bond will be much stronger and unbreakable.

Our relationship has always been wonderful and phenomenal but there's always a room for improvement:

I think our government should take an initiative to provide security to the workers/ students/ tourists visiting us.

Our governments should encourage tourism.

Our government should establish such platform where our people can interact with each other, share their ideas and get to know each other.

Our government should organize such events in both the countries where our people can sit and discuss their problems and get to know each other.

Our people should respect our cultures.

The most important thing I want our government to do is to introduce text books for "PAK-CHINA RELATIONSHIP" at primary and secondary levels.

I am honored to be your friend. We share strong bond and I hope it gets better with time no matter what our enemies and people say, we will have each other's back always. I am immensely grateful to you for what you have done for me in the past few years and I promise to be there for you whenever you need me because I do believe in the proverb:

"A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED"

At last but not the least, all we need is just a true leadership.

Over the horizon, I see,

Love, unbound.

Blessing, profound.

The "GREAT WALL"

Moon can see,

Apart yet near,

A friend so dear,

Over the horizon, I see

A long loved Friend,

That understands.

Yours forever loving friend,

Pakistan.

Written by: Ayesha Azib.



Consolation Prize : English Essay

Dear China,

In Pakistan, China stands for:

C = Close to heart

H = Honest friend

I = Incredible

N = Never disappointing


A = Always there for Pakistan

China, you been a true friend to Pakistan and so is Pakistan to You. The bond is as strong as flowers in the garden, the rainbow and the rain, the sunlight in a sunny day, the smile and the happiness, the tears and the sorrows, the heart and the blood circulation, the sea and the waves, the night and the stars, the Pacific Ocean and the Mariana trench and the life and the soul.

The friendship between Pakistan and China is considered as an exemplary friendship throughout the world. The Entire world gets amazed to see such a splendid relationship among Pakistan and China. This friendship is not a result of one day, but it's the unceasing efforts, cooperation, sincerity, support and faithfulness that both countries have shown for each other for a long period of time. It is said that when friendship lasts for more than seven years than that friend becomes a family. The point here, is the older the friendship the deeper the bond. Our dearest friend China you have become family to Pakistan.

Furthermore, the common citizen of Pakistan has very positive views about China. Especially when youth comes back from China after completing their studies in China on Scholarship they speak very high of china which promotes positive feelings in the local people. It is verified that the bond between Pakistan and China is not only diplomatic and state to state relation, but it is also people to people relation. We Pakistanis love Chinese cuisine and whenever we have special guests at our homes we cook Chinese for them because Chinese food is considered as specialty and liked by all. When we see our Chinese friends walking on the roads of Islamabad we never think of them as other than us. We feel honored that they have come to visit us. Which increases the depth of people to people relation, likewise when we Pakistanis visit China we get so much love and respect from Chinese people that we feel like home there. Chinese are the sweetest and cutest creatures on the planet.

When I was a kid, my father used to read Chinese Literature and used to tell us the stories of Chairman Mao Zedong. Since childhood I consider Chairman Mao as a brave Hero. My father still reads Chinese Literature and loves the Song once aired on PTV that is "Pak cheen Dosti Zindabad" long live friendship of Pakistan and china. Therefore, the love between Pakistan and China is moving on from generations to upcoming generations. It has become like an inherited love.



In the mid-sixties, China turned out to be a great friend of Pakistan. The Pakistan International Airlines started flights to Beijing well before any aircraft from the non-socialist world. Subsequently, China gave supporting measures of monetary and military guide to Pakistan, helped set up an indigenous safeguard creation capacity, and even more as of late gave rocket and atomic innovation over vociferous US complaints. Till reasonably as of late, China has reliably upheld Pakistan on the issue of Kashmir. Chinese maps frequently demonstrate Kashmir as a district that has a place with neither Pakistan nor India.

Moreover, since formation of diplomatic connections amid the two republics in May 1951. China and Pakistan have established an all seasoned companionship which is grounded on equivalence, association, and inclusive collaboration. The CPEC is a big achievement of Pakistan and China friendship, this shows the trust between two allies. The success of CPEC is the proof that, together Pakistan and China can create milestones in the history of diplomatic relations.

There is nothing on this globe more to be respected than true friendship. Pakistan would like to say to china that thank you so much for always being there in rain or shine to share our happiness and sorrows. Pakistan is truly blessed to have you as a friend. And Pakistan always has and always will stand beside China and will always provide support to China. When we enter the tomb of Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah the Founder of Pakistan, the beautiful crystal chandelier gives peace to eyes and reminds about the harmonious friendship of Pakistan and China and as President Xi Jinping described it as a "symbol of their all-weather strategic cooperative partnership". Without any doubt China's friendship is Pakistan's valuable strength. Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my true friend forever.

With love,
Pakistan.

By: SABREENA SHAH



Consolation Prize : English Essay

TO CHINA WITH LOVE


It was a clear, shiny, and hot afternoon in my village Pushtoongarhi in Nowshera district of the Khyber Pakhtunkhwa (KP) province of Pakistan. I was walking back home from the main road after getting off of a bus after finishing my day at the university. While crossing the railway track just at a short distance from my home, I glimpsed some Chinese who were wearing work helmets and orange colored jackets working diligently in that heat. With the intention to communicate with them, I moved toward them. After the initial meet-and-greet, I came to know that they were land surveyors who were working on an upgrade of the railway line they were standing next to. When I showed my interest in their work, they involved me in helping them with collecting soil samples. I am quite sure they did not need my help but they just wanted to make me feel useful because of my interest. I really liked their gesture.

A crowd of simple villagers had also gathered at the spot in a short span of time. They were unable to chat with the Chinese guests but were conveying their good wishes through waving hands. I was astonished at their amusement and jubilation at seeing the Chinese among them. Even the passersby were greeting them with slogans like Pak-China Dosti Zindabad (long live Pak-China friendship), we love China, and Der Kha in the local Pashtu language, which means very good or best of luck.

During conversation, the Chinese surveyors asked me about my education, hobbies, etc. Despite our language and cultural differences, while talking to them, I never felt like talking to strangers. They looked and felt very close to my heart. Perhaps, the love for China and its people is ingrained in our hearts and vice versa. Why wouldn't it be? Our love and respect for each other has evolved over decades of the all-weather and time-tested friendship between our two nations. As they say, "it is higher than the Himalayas, deeper than the Arabian Sea, sweeter than honey, and stronger than steel."

When the Chinese surveyors were finished, I offered to take them to my house so that I could properly host them. They really appreciated my offer but very politely excused as they were supposed to proceed to their next site for taking more soil samples. One of the Chinese surveyor, even gave me a parting gift: some small packs of very special green tea with a taste and aroma like I had never experienced before.

When I got home, I searched the Internet to find out more about the project I had seen my Chinese brothers work on. I found out that it was a part of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and was called ML-1 that would result in an upgrade of the railway line from Peshawar to Karachi and installation of a rapid train system. I was so humbled by the dedication of our Chinese brothers and sisters to our economic development and their sincerity toward Pakistanis. I have personally seen them working in tough conditions on road construction and energy projects in Pakistan. It always feels like our elder brothers are helping us.



I still have some very fond memories of another pleasant encounter with another Chinese brother a couple of years ago. He was the regional manager of Zong Telecommunication Company and was personally getting feedback on the quality of the service of Zong from common men at an office in Peshawar. I was among the few who could communicate with him. I helped him in knowing the public opinion and also exchanged my personal views with him. He was very glad to know that many Pakistanis preferred Zong not only for its better service quality, but also for it being a Chinese company.

I really love the pleasant demeanor and polite attitude of Chinese workers in Pakistan who have left their homes to help us. Comparing my experience of interacting with Chinese people to tourists from other parts of the world, I can sense a marked difference in their behavior, attitude, and etiquette. In contrast to proud Americans and haughty British, Chinese are polite, humble, diligent, and open-minded, who always show respect toward their counterparts. From its very inception, Pak-China relation were based on unfathomable understanding, mutual respect, sense of equality, and fraternity. China's endorsement of Pakistan's stance in international community, especially on Kashmir, has added new dimensions to Pak-China friendship. Hydropower projects, expansion of roads in high mountainous terrains, digging mines, and tunneling in hills are some of the prominent sites where a common Pakistani frequently encounters Chinese engineers and workers, toiling day and night to build and develop Pakistan.

In the end, I would reiterate that Pakistani and Chinese people have a tremendous amount of love and respect for each other. Therefore, there needs to be greater interaction between them. The Pakistani members of the projects on which Chinese are helping should inform local communities about the presence of Chinese workers on their sites, so that they could host them and interact more with them to reinforce their bonds of friendship. Cultural exchange programs, Chinese Urdu language centers in Pakistan China respectively, projection of Buddhist remains and archaeological sites of Pakistan, introduction to boosting of bilateral trade, can greatly add to further strengthening of ties.

Saddam Hussain

بڑھ گئیں تم سے مل کر اور بھی بے تابیاں"
"ہم تو سمجھے تھے کہ اب دل کو شکبیا کر دیا

دیکھو میرے دل گداز! مجھے جس بات کا قلق رہتا تھا وہ یہ تھی کہ تم تک اپنے دل کے پیام پہنچانا مشکل ہوتا ہے اس لئے میری حسرت ہے کہ میں تمہاری زبان سیکھوں، تمہارے سامنے بیٹھوں اور تمہیں کھل کر اپنے دل میں پنہاں سارے راز، ساری باتیں کہہ ڈالوں کہ میں نے تم سے محبت کے راز کو، آرزوئے ملاقات کو اور تمہاری زندگی کے قبل از وقت رشک کو بھی بے حد ضبط کیا ہے مگر اب ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا چاہتا ہے کہ اب میری زندگی کا حاصل، میری آرزوؤں کا خلاصہ، تمام آرزوؤں کی روح صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسے ایک ماہی بے آب، آغوشِ بحر تک پہنچنے کی تمنائی ہوتی ہے، یا جیسے سازِ شکستہ کی تار صدائے نغمہ سے بغل گیر ہوتی ہے، ایسے ہی تم سے مل کر بغل گیر ہو جاؤں۔

تمنا تو ہے کہ تمہارے لئے سندیسہء محبت لکھتا رہوں، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لئے مجھے یہ پیام نامہ لپیٹنا ہوگا کہ صبح ہونے کو ہے، مرغِ سحر گونج رہی ہے، فضائیں اس نغمہء صبح گاہی سے لبریز ہیں، میری بے خواب آنکھوں میں اک مستی کی سی کیفیت ہے، سیاہی بہت پھیکی نظر آرہی ہے الغرض عجیب سوز و گداز کا سامان ہے، مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ دعا کے لئے یہ وقت خاص ہے اس لئے مری درد آشنا اور تمہارے انس سے لبریز روح ہاتھ اٹھا کر قیسِ عامری کی ہم زباں ہو کر خدائے وصل سے دعا مانگتی ہے کہ

الہی !! وہ دن دکھا جب ہم انتہائے وصال کو پہنچی

والسلام

تمہارا اپنا " پاکستان"۔

قلمی نام : حیا حریم

Consolation Prize : Urdu Essay

To love, with china

عزت مآب، استوانہ امن، پیامِ محبت و عظمت کی سرزمین "چین" کے کشادہ و وسیع دامن میں ارضِ پاکستان کا محبت والفت بھرا سلام جنابِ والا
نیاز قبول فرمائیے کہ ہوا کی تحریک سے دامنِ گل برگ پر لرزے والے قطرہءِ شبنم کی مانند، سینے میں دل، آنکھ میں آنسو اور ہاتھ میں قلم کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے کہ نامہءِ بر اس سرزمین کے نام ہے جس کا حسین و پرکیف اور رعنا ہستی وجود، میری ویران و بے کیف دنیا میں اور اس کی تلخ و ناگوار بے رنگیوں میں ایک متاعِ آسرا ہے کہ اس خطہءِ جہانی میں صرف زمین کی سرحدیں ہی نہیں ملتی بلکہ دونوں سرحدوں کے پار جینے والے انفاس کے دلوں کی سرحدیں بھی ملتی ہیں اور کیونکر نہ ملیں کہ ستر دہائیوں سے اپنے حوصلوں پر کھڑی، اغیار سے لڑتی، کملائی مرجھاؤ شہاب کی مانند جیتی سہتی سرزمینِ پاکستان نے اپنے سینے میں "ارضِ چین" سے محبت کی روح فرسا خلش محسوس کی ہے اور خاص خاص موقعوں پر اس کی پرورش کی ہے، اب تو عالم یہ ہے کہ تمہاری محبت میں دل صد پارہ، اعتراف، محبت کے طور پر اپنی جراحت سامانیوں کو کسی بہتر رنگ میں پیش کرنے میں کوشاں ہے

زندہ ہوں تیرے ساتھ اے رشکِ مہر و ماہ میں
"آج کرتا ہوں تجھے اس راز سے آگاہ میں"

"میرے دلنواز "چین"

مجھے یہ احساسِ فرحت بخشتا ہے کہ تم نے میرے وجود تک رسائی کے لئے راہیں سہل کرنے کی کوششیں اور جتن کئے ہیں، میرا وجدان کہتا ہے کہ تم نے صرف "سی پیک" کا عظیم بیڑہ ہی نہیں اٹھایا بلکہ کئی دلوں کے وصل اور ان میں محبت کی پھوٹی کونپلوں کو پروان چڑھایا ہے، کہ راہیں سہل ہو جائیں تو شوقِ شباب ہو جاتے ہیں، اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میرے باسیوں کی آنکھوں میں پنہاں سپنوں کو زندہ تعبیر ملنے والی ہے، وہ سپنے جو وہ ازل سے ہی محبوب از جاں ارضِ چین کے لئے دیکھتے آ رہے ہیں، ہاں جانم!! وہی جاگتے خواب جو انہیں بادلوں کو چھوتی دیوارِ چین کی سیر کرائیں گے، تو کبھی ان خواب نشینوں کو دریاؤں "لی جانگ" کی بل کھاتی موجیں کھلی آنکھوں سے دکھائیں گے، میں کن کن سپنوں کا ذکر کروں کہ انہیں تمہاری مٹی میں سمائے ہر ذرے کے دیدار کی حسرت ہے، چاہے وہ "کوہِ چھانگ پائی" ہو یا "گوگونگ" کا شاہی محل، وہ "نیوجیہ" کی سجدہ گاہ ہو یا "شی آن" کا پرفضا مقام ہو سب ہی تو ان کے دل کی عمیق گہرائیوں میں رچے بسے ہیں -

میرے ہم گسار

یہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے اپنے دیس کے، محبت کے خمیر میں گندھ باسیوں کو "سرزمینِ پاکستان" کی طرف عازم سفر کیا ہے جو میری تعمیر میں یوں کوشاں ہیں کہ مجھے بھی تمہاری مانند اک قصرِ روشن و بلند بنا کر ہی دم لیں گے، اور تمہیں خبر ہے نا کہ ہم بھی ان کے لئے دیدہء و دل فرش راہ کئے ہوئے ہیں اور پر عزم ہیں کہ ہم دو دور دراز کی بلبلیں مل کر ایک بہارستان بنا ہی لیں گے، راہ میں آنے والی ہر طوفان کو مل سہیں گے، آخر اک دن تو آئے گا ہی جب اس زمین کے باغِ بہشت میں ہماری چہکار گونجے گی کہ

کیا ہی یہ اچھا ہو کہ ہم سیاحت کو فروغ دیں؟ سیاح اپنے ملک کے سفیر ہیں ہوتے ہیں، اگر ویزہ اور ہوائی اڈوں پر سیاحوں کے لیے زیادہ سہولیات ہوں تو عوام کا آنا جانا بڑھ گا، افس میں جاننے کا موقع ملے گا۔ ثقافت بہت مختلف ہونے کی وجہ سے اگر کسی منفی اثرات کا خدشہ ہو تو اٹریپورٹ پر ثقافتی معلومات اور ملکی قوانین کے کتابچے اور ترجمان کی سہولیات دی جا سکتی ہیں۔

اسی طرح اگر چین اور پاکستان میں تجارت کے فروغ اور آسانی دینے پر کام کیا جائے تو تب بھی لوگوں کا آپس میں ملنا زیادہ ہو جائے گا۔ خواتین اور معذور افراد کو بھی مواقع دیے جائیں تو اور بھی اچھا اثر پڑے گا۔

پاکستان اور چین کی معاشیات کا ایک بڑا حصہ زراعت پر منحصر ہے، کیوں نا کسانوں کو بھی ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔

نوجوان لیڈروں کو بھی ایک دوسرے کے ملکوں میں کانفرنس یا ایسی ہی بیٹکوں میں ایک ساتھ بیٹھایا جا سکتا ہے، اس میں خاص کر کے خواتین لیڈر اور معذور افراد کو بھی نمائندگی دی جائے تاکہ محبت کی بات کو ہر سطح پر پہنچا دیا جائے، امید ہے یہ ہی نوجوان لیڈر خود ہی مستقبل میں ہم آہنگی کے راستے نکالیں گے۔

اسی طرح دونوں طرف سے مختلف شعبوں سے طالب علموں کو دعوت دینا، ان کو اپنی جامعات میں داخلہ دینا، مختلف تعلیمی مقابلوں میں انعام کے طور پر طالب علموں کے لیے ملک کی سیاحت اور جھوٹے بڑے تعلیمی کورس کی دعوت بھی کافی کام آ سکتی ہے۔ خاص کر میں سائنس، ٹیکنالوجی اور ابلاغ کے شعبے میں۔ نوجوان ذہین کسی بھی ماحول کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے، تو نوجوانوں کا ایک مثبت تجربہ آنے والی نسلوں کو آپس میں دوست بنا سکتا ہے۔ نوجوانوں کے علاوہ بھی مختلف شعبوں سے تجربہ کار لوگوں کو بھی ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دینا چاہیے۔

ایک اور تجویز، کہ کچھ ان لائن فورم صرف پاکستان اور چین کے لیے ہونے چاہیے جہاں ہر عمر کا، عام انسان ایک دوسرے سے باہمی دلچسپی کے موضوعات پر بات کر سکے جیسے آجکل فیس بک یا ٹوئٹر پر ہوتی ہے۔

اسی طرح کلچر کی فروغ کے لیے سیاحت کے علاوہ آرٹ، ہنر اور کاریگری کی نمائشیں ہوں جن میں صرف عام لوگ ہی حصہ لیں اور دیکھنے آئیں۔ کھلانے پکانے اور پکوان سیکھنے کے مواقع خواتین و حضرات میں ہمیشہ سے مقبول رہے ہیں۔ خواتین کی دلچسپی کے لیے بھی دونوں ملکوں میں خاص پروگرام مرتب کیے جا سکتے ہیں۔

آخر میں اب یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کی خلق کو سفارت کاری کی اس کتاب میں عوامی باہمی تعلقات کا باب خود ہی لکھ لینے دو۔ یہ ہی سب سے بہتر ہے۔

خدا کرے اب صرف فلک ہی تمہاری منزل ہو، امین

! تمام نیک تمناؤں کے ساتھ، اب اجازت چاہوں گی

، پاکستان سے تمہاری خیرخواہ

فارینہ بشیر

Consolation Prize : Urdu Essay

چین کے نام ، محبت کے ساتھ

میرے پیارے دوست چین

! ہمیشہ سلامت رہو

تم سے انسیت کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب میری ملاقات چھٹی جماعت میں 'لن' سے ہوئی ، لن کا تعلق چین سے تھا، اس کے چہرے کے خوبصورت باریک خدوخال مجھے اکثر مجھے چین کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتے۔

میری اچھی قسمت دیکھو، استاد محترم نے اس کو میرے ساتھ والی کرسی ہی اس کے لیے مختص کر دی، کچھ عرصہ تو وہ میرے ساتھ بیٹھنے کے باوجود بھی کھچی سی رہی پر پھر وقت گزرنے کے ساتھ اچھی دوست بن گئی۔ چین کیا ہے؟ کیسا ہے؟ چھوٹی سے عمر میں وہ مجھے چین سے جتنا متعارف کروا سکتی تھی اس نے اپنی من موہ لینے والی شخصیت کے ذریعہ کروا دیا۔ پھر لن تو دو سال بعد اپنے ملک واپس لوٹ گئی پر میرے دل میں چین اور چین کے لوگوں کے لیے بہت ہی گداز جذبات چھوڑ گئی۔

لن کے جانے کے بعد چین کا صراحت سے تعارف میری درسی کتابوں نے کروایا اور پھر بہت سے اور کتابوں نے جن میں لازوال دوستی کی خوبصورت داستانیں پڑھنے کو ملیں۔ مجھے چین کا پاکستان کے لیے ایک شفیق ساتھی ہونے سے متعلق قدرت اللہ شہاب کی کتاب 'شہاب نامہ' میں کچھ تاریخی حقائق پڑھنے کو ملے جس نے مجھے بہت متاثر کیا کہ کیسے چین نے پاکستان کی ہر مشکل موڑ پر مدد کی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں ایک بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی سے لازوال محبت کی کوئی دیومالائی داستان پڑھ رہی ہوں۔

آج بھی جب میں چین کو دیکھتی ہوں تو اسکو پاکستان کے لیے ایک مثال پاتی ہوں۔ پاکستان بدقسمتی سے بدعنوانی کے ایک بڑے دیو سے نبرد آزما ہے، ساتھ ہی ساتھ غربت سے بھی اسکی جنگ جاری ہے۔ چین نے حال ہی میں ان دونوں مسائل سے نجات حاصل کی ہے، میرا دل تو یہ کرتا ہے ہم پاکستانی ، تمہارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور تمہاری ہی طرح دنیا میں بہترین اکانومی بن جائیں۔

کیا ہی یہ اچھا ہو کہ ہم اب پاکستان اور چین کے عوام کی سطح پر بھی کچھ روابط بڑھائیں؟ اب لیڈروں اور سفیروں کی سطح پر تو بہت بات ہو گئی۔ اب تو ساری دنیا ہی مانتی ہے کہ افراد کی سطح پر جو سفارت کاری ہوتی ہے وہ ہی دراصل زیادہ پائیدار اور دوراز نتائج دیتی ہے۔ یہ روایتی سفارت کاری کی کوشیشوں کا اب ایک اہم تکمیلی جز بن چکا ہے۔ میرے خیال میں تو کوئی سفارت کاری اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اسے عام عوام کی تائید حاصل نا ہو۔ تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟

اس ضمن تو تمہیں ایک واقعہ یاد کروانا مناسب رہے گا ، جب 1971ء میں تمہارے تعلقات امریکہ سے بہت خراب چل رہے تھے اور اسی دوران "پنگ پانگ ڈپلومیسی" جیسا مشہور واقعہ رونما ہوا جس نے صدر رچرڈ نیکسن کے لیے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کی راہ ہموار کی۔ تمہیں یاد ہے ، جب جاپان میں اکتیسویں عالمی ٹیبل ٹینس کے مقابلے چل رہے تھے اور وہاں چین اور امریکہ، دونوں ملکوں کے کھلاڑی موجود تھے۔ اتفاق سے امریکی کھلاڑی گلین کووان سے اس کی اپنی ٹیم کی بس نکل گئی اور چینی ٹیم نے اسے اپنی بس میں آنے کی دعوت دی، بس میں سفر کے دوران گلین کووان چینی کھلاڑیوں میں گھل مل گیا اور خاص کر زوانگ زتونگ سے گلین کی بات چیت اور اس کے ساتھ تحائف کا تبادلہ، ہر امریکی گھر میں کھلانے کی میز پر بات چیت کے لیے ایک پسندیدہ موضوع بن گیا۔ اسی واقعہ کی وجہ سے چین اور امریکی عوام اور حکومتی سطح پر بھی تعلقات کی سرد مہری میں کمی آئی۔

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمانے گئے جب لیڈر اور سیاسی عہدے داران ہی سفارت کاری سے متعلق فیصلے کرتے تھے، اب عوام کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور قدر ہی آپ کو ایک کامیاب تعلق بنانے میں سہولت دے سکتی ہے۔ اب ملکوں میں عوامی ہم آہنگی ایک اٹل قوت ہے۔ ہم کیوں نا اس کا مثبت استعمال کریں؟

اگر تم مناسب سمجھو تو کچھ میرے پاس بھی تجاویز ہیں جو چین اور پاکستان کے باہمی تعلقات کو عوامی سطح پر نکھار سکتی ہے اور وہ بھی نہایت کم خرچ میں۔

اس لڑکی کا دیا تحفہ آج تک میرے پاس موجود ہے اور اس کی سنہری چمک آج بھی روز اول جیسی ہے کہ خلوص اور محبت کے رنگ کبھی ماند نہیں پڑتے۔

ابھی چند دن پہلے کی بات ہے پچھلی گلی والے رفیق چچا کا منجھلا بیٹا تمہارے ہاں سے ڈگری حاصل کر کے آیا ہے۔ میں بھی امی جی کے ساتھ مبارک دینے گئی۔ ارے کیا بتاؤں فیضان بھیا تو بالکل بدل گئے ہیں۔ اتنے مہذب انداز میں بات کرتے ہیں۔ ہر وقت مسکراتے ہی رہتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگے گڑیا اس ملک کی مٹی میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ انسان بدل جاتا ہے۔ ہر شخص وہاں اتنی محبت سے اور جھک کر ملتا ہے کہ دم رخصت اپنا احساس چھوڑ جاتا ہے۔ کہنے لگے گڑیا وہاں آپ کو کوئی شخص بیکار بیٹھانہیں ملے گا۔ چین ایک متحرک قوم ہے۔ محنت سے نہیں گبھرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ قوم باقیوں کے لیے استعارہ ہیں۔

ارے لکھتے لکھتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام اپنی پوشاک سمیٹ رہی ہے اور رات اپنے پر اطراف میں پھیلا رہی ہے۔ مجھے گھر وقت پر پہنچنا ہے اور صبح کے لیے ٹیسٹ تیار کرنا ہے۔ پیارے دوست میں بہت دل سے محنت کر رہی ہوں کیونکہ تمہارے وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنا میرا وہ خواب ہے جو میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چائینہ کے کسی اچھے ادارے میں تعلیم میرا وہ خواب ہے جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا اور مجھ سے جہد مسلسل کرواتا ہے۔

میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بہت محنت کروں گی اور اپنے آپ کو اس قابل بناؤں گی کہ تمہارے وہاں سکالرشپ پر آکر پڑھ سکوں۔ اچھا تو اب میں قلم رکھتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ جلد ہی تم سے بنفس نفیس ملاقات ہو گی کیونکہ اگر امید نہ ہو تو ہم جیئ کس کے سہارے؟؟

نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ۔

فقط

پاکستان کی ایک باسی

کنزا نذیر۔

Name: Kinza Nazir

Consolation Prize : Urdu Essay

یہ خط ہے ایک دوست کے نام - -
خلوص سے گندھی مٹی کے نام

میرے دل میں بسی
جان سے پیاری
سرزمین چین کے نام - -
ڈٹیر سرزمین چین

ستمبر کی اس سنہری اور نرم و گداز شام میں، میں برگد کے ایک بوڑھے درخت کے مہربان سائے تلے بیٹھی ہوں۔ یہ دن کا رات میں مل جانے کا وقت ہے۔ داداجی کہا کرتے تھے کہ یہ وقت الہام کا وقت ہوتا ہے۔ اس سمہ حکمتیں بانٹی جاتی ہیں۔ داداجی اکثر کہا کرتے تھے کہ جب بھی بے وقت پاؤ تو کسی عزیز ہستی کو خط لکھا کرو کہ اس لمحے محبتیں دان کی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس سیمے میں تمہیں بے خط لکھ رہی ہوں اور بہت دل سے لکھ رہی ہوں۔

چلو پہلے تو تمہیں ایک داستان خاک و خون سناتی ہوں۔ تو قصہ ھ نصف صدی پہلے کا۔ 1947 کے اس خاک میں لٹھڑے ہوئے اور خون میں نہائے ہوئے سال میں جب ایک نومولود مملکت نے جنم لیا تو اس کے ہاتھوں میں بلند حوصلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسے میں جہاں بہت سونے گلا گھونٹنے کی کوشش کی وہاں ایک ملک ایسا بھی تھا جس کی پیشانی روشن تھی اور دل مقدس سنہرے پانیوں سے دھلا ہوا تھا۔ فرشتوں کے سے مہربان سفید پروں والے اس ملک نے جب اپنا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا تو گلا گھونٹنے کو بڑھتے ہاتھ یک لخت پیچھے ہٹنے لگے۔ ننھے پاکستان نے حوصلہ پا کر سر اٹھانا شروع کیا اور آج ایک خود مختار ریاست ہے۔ مگر پیارے چین تمہاری اور پاکستان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تمہارے اور پاکستان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ستارا ہے، ثمر ہے، امر ہے اور دل میں رکھے جانے کے قابل ہے۔ جب کبھی میں پانیوں سے بنی جلد والے پری چہرا چینی باشندوں کو دیکھتی ہوں تو دل میں ایک عجیب سا اپنائیت کا احساس جاگتا ہے جیسے ہم سب ایک ہی خاندان کا حصہ ہوں ایک ہی کنبہ ہوں کہ دوستی کا رشتہ ہے ہی اتنا محترم اور مقدس۔

ارے ہاں گزشتہ برس ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ میرا کسی ضروری کام کے سلسلے میں دارالحکومت اسلام آباد جانا ہوا۔ اپنا کام نیٹا کر ایف سیکنڈ میں واقع ایک پارک میں چلی گئی۔ کچھ دیر چہل قدمی کے بعد داہنے پاؤں میں شدید تکلیف کا احساس جاگا کہ چلنا محال ہو گیا۔ تبھی دو نرم ہاتھوں نے سہارا دیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو مقدس پانیوں کی سی شفاف جلد والی چینی لڑکی چہرے پر معصومانہ مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ مجھے قریبی بنچ پر بٹھا کر میرے پاؤں کا معائنہ کیا اور اپنے بیگ سے پلاسٹک بینڈیج نکال کر پاؤں پر لگانے لگی۔ پھر نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر فی الفور مجھے انگریزی زبان اور کچھ ہاتھوں کے اشاروں سے تسلی دینے لگی۔ میں اپنی تکلیف بھول کر اس روشن پیشانی والی لڑکی کو دیکھے گئی جس کا دل اتنا مہمان نواز تھا کہ کسی اجنبی کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ کافی دیر وہیں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے رہے۔ اس کا انداز اتنا سادہ لوح تھا کہ دلوں پر ثبت ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنا بیگ کھولا اور ایک سنہری بریسلیٹ میری طرف بڑھایا۔



"To China, with love"

An Essay competition organized by Pakistan-China Institute.



PAKISTAN-CHINA INSTITUTE

